


ایران، لبنان و خلیجی ممالک میں سرگرم تنظیمیں

حزب اللہ کون ہے؟



علی الصادق

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
1	حزب اللہ کون ہے؟	۱
4	حزب اللہ، لبنانی شیعہ تنظیم کا قیام	۲
5	حکمت اہل الشیعہ کا بانی کون ہے؟	۳
11	لبنان میں حزب اللہ قائم کرنے والے لیڈر کون ہیں؟	۴
16	حزب اللہ کے بانیان اور اس کے پیروکاروں کے عقائد	۵
22	حزب اللہ کن کے مفادات کی نگران ہے اور سرمایہ کہاں سے آتا ہے؟	۶
31	حجازی حزب اللہ	۷
38	کویت حزب اللہ	۸
42	یمنی حزب اللہ	۹
47	لبنانی حزب اللہ کے اعلانیہ اور خفیہ مقاصد	۱۰
48	حزب اللہ کا خمینی سے تعلق اور خمینی کے عقائد	۱۱
53	لبنانی حزب اللہ کا ایران سے کیا تعلق ہے؟	۱۲
57	کیا لبنانی حزب اللہ ایران عراق جنگ میں شریک تھی؟	۱۳
59	حزب اللہ کا اپنے خطابات اور خارجی سیاست میں تقیہ پر عمل	۱۴
63	کیا حزب اللہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہی ہے؟	۱۵
65	کیا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا؟	۱۶
68	حزب اللہ کی دوستی کن سے ہے؟	۱۷

اس کتاب کے جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں

- نام کتاب < حزب اللہ کون ہے؟
- مؤلف < علی الصادق
- ترجمہ < ابو محمد
- تعداد < گیارہ سو (۱۱۰۰)
- سال اشاعت < ۲۰۰۸ء (اردو)
- شائع کردہ < مکتبۃ الامام البخاری

۴۶، شارع الجمہوریۃ الثلاثینی
الاسماعیلیۃ - مصر

* یہ کتاب دیگر زبانوں میں بھی شائع ہو چکی ہے

حزب اللہ کون ہے؟

مقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حزب اللہ کا موقف

- ۱۸ لبنانی اور دیگر اسلامی حکومتوں کے بارے میں حزب اللہ کا موقف
- ۱۹ اہل سنت اور حزب اللہ کے فریب
- ۲۰ کیا شیعہ نے کبھی بھی مسلمانوں کا دفاع کیا؟
- ۲۱ افغانستان اور عراقی حکومتوں کا خاتمہ۔ ایران کا کردار اور امریکہ سے تعلقات
- ۲۲ رافضی شیعہ عقائد کی نشر و اشاعت
- ۲۳ صلیبی فوجوں کے خلاف جنگ میں حزب اللہ کا کردار
- ۲۴ دو اسرائیلی فوجیوں کے اغوا کے اغراض و مقاصد
- ۲۵ کچھ سوالات
- ۲۶ ضمیمہ جات
- ۲۷ حسن نصر اللہ اور اس کی جماعت سے بچو
- ۲۸ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکنے والے اور بیت المقدس کی آزادی
- ۲۹ تصویری دستاویزات
- ۳۰ حزب اللہ کی تبلیغی کامیابیوں کا جائزہ
- ۳۱ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۲ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۳ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۴ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۵ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۶ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۷ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۸ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۳۹ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ
- ۴۰ حزب اللہ کی تاریخ و انشاء اللہ حزب اللہ کی تاریخ

حزب اللہ کون ہے؟

مقدمہ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہمارے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیائے کرام اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر اپنی رحمت کی برکات برسائے۔ آمین

بعد ازاں: اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے والے شیعہ جو کہ قرآن مجید میں تحریف کے مرتکب ہیں، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے اور امہات المؤمنین پر جھوٹی تہمتیں لگانے کے مجرم ہیں، وہ کھوکھلے نام نہاد شعراء اور جھوٹے تنظیمی ناموں کے در پردہ ہم سنی مسلمانوں پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ ان کی تنظیمیں یہ کام اس لئے کر رہی ہیں تاکہ وہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ امت اسلامیہ کے صحیح لیڈر اور اصلی راہنما وہی ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ امت اسلامیہ کے سلف صالحین پر دن رات لعن طعن کرتے ہیں اور ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ کی حقیقت حال سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سارے مسلمان دھوکھا کھا گئے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ جاہل سنی مسلمان اس تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ کو مسلمانوں کا ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اس کے سر کو بوسہ دینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے جس کا سبب اس تنظیم کی اصلیت، ان کے عقائد، مقاصد اور ان کی تاریخی حیثیت سے ناواقفیت ہے جو کہ بے گناہ سنی مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا ہے: اِنَّمَا تَنْقُضُ غُرُوزَ غُرُوزَةٍ اِذَا دَخَلَ فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَا يَفْرُقُ الْجَاهِلِيَّةَ

(مسند احمد: 4/323)

”یقیناً اسلام کی گریں ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گی جب اسلام میں ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے جو جاہلیت سے ناواقف ہوں گے۔“

آج کل جب کہ ہم حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کی بڑی بھرپور تعریف سن رہے ہیں اور لوگ

اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو اس نے ہم کو ان دنوں کی یاد دلادی ہے۔ جب غمینی نے علم بغاوت بلند کیا تھا اور ”اسلامی“ جمہوریہ ایران کی تائیس کا اعلان کیا تھا۔ اس کے اس نعرے سے بے شمار سنی مسلمان دھوکہ کھا گئے حتیٰ کہ کچھ لوگ ایران پہنچ گئے۔ تاکہ غمینی کو اس ”اسلامی مملکت“ کے قیام پر مبارکباد پیش کر سکیں۔ کیونکہ ان کے خیال میں عنقریب ایک حقیقی اسلامی مملکت قائم ہونے والی تھی۔ لیکن ان کے یہ سارے خواب چکنچور ہو گئے اور ان کی امیدیں خاک آلود ہو گئیں جب انہیں پتہ چلا کہ غمینی کا مقصد تو صرف شیعہ حکومت قائم کرنا اور عالم اسلام میں شیعہ مذہب کا زہر گھولنا ہے۔

اس موقع پر ایک اہم مسئلہ پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل خالص یہودی ریاست ہے جو امت اسلامیہ کے جسم میں ایک خبیث پھوڑے کی مانند ہے۔ لہذا انہیں یہودیوں کے قتل و غارت اور ان کی تباہی و بربادی پر فطری خوشی اور مسرت ملتی ہے۔ خواہ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب کوئی بھی ہو۔ کیونکہ یہودی انبیائے کرام علیہم السلام کے قاتل اور رسولوں کے جانی دشمن ہیں۔ جو شخص بھی ان کی ظالمانہ تاریخ کی ورق گردانی کرے گا وہ ان کی تاریخی ذلت و رسوائی اور امت مسلمہ کے خلاف ان کے سیاہ کارناموں کو ضرور جان لے گا۔ لیکن ان مسلمہ حقائق کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس علاقے میں ایرانی شیعہ کی امداد کے اصل اہداف سے غافل ہو جائیں اور ان کے مقاصد خبیثہ سے چشم پوشی کر لیں۔ وہ ایرانی مالی اور فوجی امداد جو جنگی زخموں سے پھر پھر عراق سے ہوتی ہوئی اب لبنان پہنچ گئی ہے۔ وہ یہ کام نام نہاد مقابلے اور آزادی فلسطین کے نام پر کر رہے ہیں۔

اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک ایسی کتاب لکھنے کا عزم کیا۔ جس میں چند ایسے بنیادی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں جو حزب اللہ کی اصلیت کو واضح کر دے اور اس کے مخفی گھناؤنے چہرے کو سنی مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دے۔ لہذا میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کام میں آسانی کے لئے خصوصی مدد مانگی اور لبنان کا دورہ کیا۔ پھر اس دورے میں حاصل ہونے والے حقائق اور دستاویزات کی مدد سے یہ کتاب لکھ دی ہے۔

میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کرنے، اپنی دینی ذمہ داری ادا کرنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے سے کیا ہے کیونکہ امت اسلامیہ کے بے شمار لوگ اس جماعت کی اصلیت

سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس کے فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ (حالانکہ یہ ایک گمراہ سنی مسلمانوں کی دشمن جماعت ہے)۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ مسلمانوں کی حالت سنوار دے، اور انہیں دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے تاکہ انہیں مجرموں کے طریقہ واردات کی سمجھ آ سکے، اور مسلمانوں کے قائدین اور علمائے کرام کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنت نبوی ﷺ اور اس کے پیروکاروں کی مدد فرمائے اور بدعت اور بدعتی گروہوں کو ملیا میٹ کرے۔ ہمیں حق کی پہچان عطا کر کے اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

یقیناً میرا ہر کام اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے نبی مکرم اور ہمارے راہنما، رحمت عالم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ آمین!

علی صادق

ali_alsadiq @ hotmail. com.

☆☆☆

حزب اللہ، لبنانی شیعہ تنظیم کا قیام

لبنانی شیعہ تنظیم ”حزب اللہ“ لبنان میں 1982ء میں قائم ہوئی۔ اور 1985ء میں سیاست کے میدان کارزار میں باقاعدہ شامل ہو گئی۔ یہ تنظیم ایرانی کمک پر چلنے والی تنظیم ”حرکتہ امل الشیعہ“ کے لٹن سے پیدا ہوئی۔ شروع میں اس کا نام اس کی مادر کے نام پر ”امل الاسلامیہ“ رکھا گیا تاکہ یہ پوری امت اسلامیہ میں مقبول جماعت بن سکے۔ کیونکہ اس کی مادر ”حرکتہ امل الشیعہ“ لبنان کی سیاست میں صرف شیعہ افراد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور نئی تنظیم ”امل الاسلامیہ“ کا مقصد لبنان کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام میں شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت تھا۔ اس لئے اس تنظیم نے جنگجو مجاہدوں کا روپ دھار لیا۔ جس کا مقصد امت کا دفاع اور امت اسلامیہ کے مقدس مقامات کا تحفظ ہو۔ لیکن ”حرکتہ امل الشیعہ“ کی وحشیانہ معاشرتی بدکرداری اور گھناؤنے جرائم کی وجہ سے اس کی نومولود تنظیم ”امل الاسلامیہ“ کو امت اسلامیہ کے دفاع جیسا اہم فریضہ سونپنا ممکن نہ تھا۔ کیونکہ ایسی صورت میں اس کی ناکامی یقینی ہوتی۔ اس خدشے کے پیش نظر ایک اور نئی جماعت ترتیب دی گئی۔ جسے آج ”حزب اللہ“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ [دیکھئے کتاب: امل و المخبیات الفلسطينية صفحہ 181] تنظیم کے نام کی تبدیلی کے بعد ذرائع ابلاغ نے لوگوں کو کچھ نئے ہیرو تراش کر دے دیئے اور ان کی شخصیت کو بھرپور ملح سازی کے ذریعے قومی ہیرو بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ کل تک یہی لوگ سنی مسلمانوں کے قاتل تھے۔ مبرا، شایتلا اور براجنہ ٹاور میں قتل و غارت کا بازار نہیں ظالموں نے سجا یا تھا۔ جہاں بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی کھلی گئی۔ لہذا آج وہی ظاہم، مسلمان مجاہدین اور فاتحین ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟

یہ ایک پٹلی تماشہ اور سٹیج ڈرامہ ہے جسے امت اسلامیہ اور ایسے نادان حکمرانوں میں فروغ دیا جا رہا ہے جو دینی سوجھ بوجھ سے کورے اور صحیح عقیدہ سے بے بہرہ ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کرتے۔ بلکہ گمراہ کن ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے عوام پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور یہ ذرائع ابلاغ کبھی بھی اپنے اہداف و مقاصد کی بنیاد صحیح علمی اصولوں یا تاریخی حقائق و واقعات پر نہیں رکھتے۔ اس طرح حزب اللہ امت اسلامیہ میں ”امل الشیعہ“ سے بڑھ کر خطرناک کردار ادا کرنے کے لئے میدان عمل میں اتری ہے۔ حالانکہ ”امل الشیعہ“

کا کردار صرف سیاست کی حد تک محدود تھا جو اس نے سیکولرازم کے داعی بن کر ادا کیا۔ [”حزب اللہ“ کا خطرناک کردار بالکل واضح ہو چکا ہے۔ کیونکہ گزشتہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حزب اللہ ایک نہایت متعصب شیعہ تنظیم ہے۔ جن کے سینوں میں سنی مسلمانوں کے خلاف حسد و نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ”امل الشیعہ“ اور ”حزب اللہ“ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور ان کا مشترک وصف اہل سنت کے خلاف رافضی شیعہ تعصب و حسد ہے۔

”حرکتہ امل الشیعہ“ کا بانی کون ہے اور

اس کا عمل و کردار کیا ہے؟

”حرکتہ امل الشیعہ“ کا بانی موسیٰ الصدر ہے جو ایرانی باشندہ ہے۔ وہ 1928ء میں ایران میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی تعلیم تہران یونیورسٹی میں مکمل کی۔ پھر 1958ء میں لبنان پہنچا۔ وہاں پہنچنے پر اسے فواد شہاب نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے لبنانی شہریت بھی دے دی حالانکہ وہ نسلی اعتبار سے ایرانی ہے۔ [دیکھئے: امل و المخبیات الفلسطينية صفحہ 31]

موسیٰ الصدر، خمینی کا شاگرد خاص ہے اور موسیٰ کے خمینی کے ساتھ گہرے خاندانی روابط ہیں۔ خمینی کے بیٹے احمد کی شادی موسیٰ الصدر کی بھانجی سے ہوئی ہے اور موسیٰ کے بھانجے مرتضیٰ الطباطبائی کی شادی خمینی کی پوتی سے ہوئی ہے۔

موسیٰ الصدر نے ”امل الشیعہ“ کے نام سے ایک مسلح تنظیم کی بنیاد الجبوب، بیروت اور البقاع کے علاقوں میں رکھی۔ اور یہ تنظیم نیشٹل افواج کے ساتھ گہرے تعاون میں منسلک تھی۔ جبکہ موسیٰ الصدر لبنان میں آنے والے ہر نصیری مسؤل کا معتمد خاص بنا رہا ہے۔ جب شام کا نصیری شیعہ لشکر لبنان میں داخل ہوا تو موسیٰ الصدر نے فوراً پیٹر ابدلا اور قومی اسلامی لیڈر کی بجائے خود کو استعماری قوت کا خفیہ ایجنٹ بنا دیا اور درج ذیل کارروائیاں کر کے خود کو استعمار کا مخلص ایجنٹ ثابت کیا۔

(1) موسیٰ الصدر نے ایک فوجی افسر ابراہیم شاہین کو حکم دیا تو وہ عربی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے شام کے دستوں سے تعاون کرنے والے ہر اول لبنانی دستے تشکیل دیئے۔ اسی طرح شمال کے

علاقے میں ایک فوجی میجر احمد معماری بھی نیشنل افواج سے الگ ہو کر شام کے نصیری شیعہ لشکر سے مل گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے لبنان کا عربی لشکر موارنہ کو خوفزدہ کرنے والا سب سے بڑا اور ہم لشکر تھا۔ لیکن موسیٰ الصدر کی غداری اور سازشوں کی وجہ سے یہ لشکر تباہ ہو گیا۔ کیونکہ انہیں اندرونی غداریوں سے ایسی تباہی کی امید ہی نہ تھی۔ موسیٰ الصدر نے ”اصل الشیعة“ کو حکم دیا تو اس کے تمام ارکان نیشنل آرمی سے الگ ہو کر شامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور موسیٰ الصدر آزادی کی تحریک کے خلاف حملہ آور ہو گئے۔

(2) 15 اگست 1976ء کو فرانس کی خبر رساں ایجنسی نے خبر دی کہ موسیٰ الصدر نے رومی آرتھوڈکس اور کیتھولک پادریوں اور موارنہ کا ایک اجتماع منعقد کیا ہے جس میں البقاع کے روڈوسا اور اسمبلی ممبرز بھی شریک ہوئے۔ اس اجتماع کا مقصد ایک ایسی حکومت کا قیام تھا جس پر شام کے نصیری شیعہ کا غلبہ ہو۔ یہ اجتماع ایئر فورس کے ریاق اڈے پر منعقد ہوا۔

(3) 12 اگست 1976ء کو فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے پھر خبر دی کہ موسیٰ الصدر نے تحریک آزادی کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور تحریک آزادی نے الزام لگایا ہے کہ موسیٰ الصدر کی تنظیم حکمران عربی نظام کو ختم کرنے کے لئے کارروائیاں کر رہی ہے۔ ان کے اہداف میں سرفہرست لبنان کا حکومتی نظام ہے۔ اور ان کی تنظیم فلسطینی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے دیگر تنظیموں کا تعاون حاصل کر رہی ہے۔

(4) موسیٰ الصدر نے فلسطینیوں پر بڑی سخت اور کاری ضرب لگائی۔ حتیٰ کہ تحریک آزادی فلسطین کے قائد نے مصر میں ایک بیان جاری کیا جس میں موسیٰ الصدر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی سخت مذمت کی اور موسیٰ کی موارنہ اور شامی حکومت کے ساتھ تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا۔

موسیٰ الصدر اور اس کی جماعت نے شامی حکام کے ساتھ تعاون ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے تحریک آزادی کے مجاہدوں کے فدائی حملے روکنے اور فلسطینیوں کو جنوب سے نکالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کے اس مطالبے کی وجہ سے کئی خون ریز تصادم ہوئے اور پھر شیعہ نے صیدا میں مکمل بائیکاٹ کیا اور جنوب سے مسلح تنظیموں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔

ان خونریز تصادموں کے بعد سب سے پہلے موسیٰ الصدر نے جنوب میں ملکی ایمر جنسی افواج متعین کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اور

فلسطینیوں کو اس معاہدے کو ہرگز توڑنا نہیں چاہئے۔ [دیکھئے: اصل والمخبيات الفلستينية از عبد الله محمد الغرب، صفحہ: 34-31]

ایک اسرائیلی اٹیلی جنس افسر کا کہنا ہے: ”اسرائیل اور لبنانی شیعہ کے درمیان معاہدے میں پُر امن علاقوں کی شرط نہیں رکھی گئی۔ اسی لئے اسرائیل لبنانی شیعہ کے ساتھ خصوصی تعاون کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک طرح کی مفاہمت ہو گئی ہے تاکہ فلسطینی تحریک آزادی کو پکلا جا سکے۔ جسے حماس اور تحریک جہاد اندرونی امداد کے ساتھ چلا رہے ہیں۔

موسیٰ الصدر کا سب سے زیادہ تعاون شام کے نصیری شیعہ نظام حکومت کے ساتھ وابستہ تھا۔ ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق شامی لبنان کے نصیری لوگوں کو شیعہ قرار دے دیا گیا اور ان کے لئے جعفری فقہ کا مفتی بھی مقرر کر دیا گیا۔ جب حافظ الاسد کے والد کی موت کا وقت آیا تو اس نے خصوصی طور پر موسیٰ الصدر کو بلایا اور اس نے آ کر ان مخصوص کلمات کی اسے تلقین کی جن کی شیعہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔

چنانچہ جب بھی لبنانی عربی لشکر اور لبنان کی فلسطینی افواج کسی معرکے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی پشتوں کو شیعہ کے سامنے غیر محفوظ پایا۔ مثال کے طور پر فلسطینی افواج، بعلبک اور الحرمل کے نزدیک معرکہ میں مشغول ہوئے تو شیعہ جعفری مفتی سلیمان الجعوفی فوراً نصیری شیعہ لشکر سے جا ملا اور پھر اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا معذور اور نہتے سنی مسلمانوں پر فاتح بن کر بعلبک میں داخل ہوا۔

موسیٰ الصدر نے اپنے انہی پلید کارناموں پر ہی بس نہیں کی بلکہ اس نے ”اصل الشیعة“ کے قائدین کو نصیحت کی کہ وہ النبیۃ اور شیعہ کے علاقوں میں موارنہ کا مقابلہ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ الصدر نے بیروت کے شیعہ علاقے موارنہ کے سپرد کر دیئے۔ اور انہیں کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جیسے چاہیں قتل و غارت کریں اور جسے چاہیں اپنا قیدی بنالیں۔

یہ موسیٰ الصدر ہی ہے جس نے کہا تھا: ”اسلحہ مردوں کی زینت ہے“ اور بے شک ہم انقلابی فوج ہیں اور ہمارا انقلاب کربلاء کی ریت میں دفن نہیں ہوا۔ بلکہ ابھی تک زندہ اور جاری ہے۔“ [دیکھئے کتاب: حزب

الله من الحلم الأبد یولوجی إلى الواقعية السياسية، صفحہ 155]

1405ھ میں رمضان المبارک میں ”اصل الشیعة“ تنظیم نے بیروت کے فلسطینی کیمپوں پر حملہ

آزمائش سے نجات ملی۔ اس دوران غذائی قلت کے باعث یہ مظلوم بلیوں اور کتوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوتے رہے۔ وہ پناہ گاہوں سے نکلے تو ان کے گھر کھنڈرات بن چکے تھے اور 90% مکانات برباد ہو چکے تھے۔ تقریباً 3100 افراد مقتول اور زخمی ہو گئے تھے اور 15 ہزار افراد ان کیپسوں کو چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ یہ تعداد ان کیپسوں میں پناہ گزین کا 40% فیصد ہے۔

”أهل الشیعة“ کے ان شرمناک جنگی جرائم پر ہر حق شناس شخص مغموم ہے اور ان کے رسوا کن کارناموں کی تفصیل لکھتے ہوئے قلم جواب دے جاتے ہیں۔ [اس گھنائونے قتل و غارت پر خمینی بالکل خاموش رہا اور اس نے اس شنیع غارت گری اور خونریزی کو روکنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی۔ بلکہ 1986ء میں شیخ أسعد یوسف التیمی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی غازی عبدالقادر حسینی ایران گئے تاکہ وہ خمینی سے ملاقات کر کے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت کو روکنے کی درخواست کریں۔ لیکن خمینی نے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ حضرات خمینی کے نائب منتظری کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی تو اس نے فلسطینیوں کی اس تباہی و بربادی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ اس پر خمینی شدید غضبناک ہوا۔ اور اس نے منتظری کو اپنے نائب کے عہدے سے معزول کر دیا۔]

[دیکھئے محمد أسعد یوسف کی گفتگو: ”مستأذا حصری فی لبنان، موقع مفكرة الاسلام، 1427/8/27ھ۔ 2006/ 9/20م] لیکن ان کے شرمناک جرائم کی کچھ داستان درج ذیل ہے:

(1) اٹلی کا ریوبلیکا اخبار معذوروں اور چار فلسطینیوں کے قتل عام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ”یہ نہایت شرمناک اور رسوا کن کام ہے جو ”أهل الشیعة“ نے انجام دیا۔“

جبکہ استاذ قمی حویدی فرماتے ہیں: ”فلسطینی کیپسوں میں ”أهل الشیعة“ کے قتل و غارت پر امام خمینی نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ اور جب اس نے 20 جون 1985ء نماز عید کے بعد خطبہ دیا تو ان کیپسوں میں مظلوم فلسطینیوں کا تذکرہ تک نہ کیا۔ جب ان کے ایک مقرب ساتھی سے میں نے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا: ”امام صاحب مساوات اور توازن کے قائل ہیں اور اس معاملے میں بھی ان کا اپنا ایک مخصوص مساوات کا معیار ہے! اس لئے وہ اس معاملے میں خاموش ہیں۔ [دیکھئے: قمی حویدی کی کتاب: ”ایران من الداخل، صفحہ 404]

(2) 26 مئی 1985ء کو شیعوں نے نہتے فلسطینیوں کا ایک پناہ گزینی کمپ تباہ کر دیا۔ اس

کر دیا۔ اور اس جنگ میں ہر قسم کا مہلک اسلحہ استعمال کیا۔ ان کا یہ خوفناک حملہ پورا مہینہ جاری رہا۔ یہ جنگ اس وقت تک ختم نہ ہوئی جب تک کہ فلسطینیوں نے دمشق کے حافظ الأسد اور اس کے وکیل نبیہ بری کی تمام شروط قبول نہ کر لیں۔

20 مئی 1985ء کو رمضان المبارک کی پہلی رات اس جنگ کی ابتدا ہوئی۔ جب ”أهل الشیعة“ کی ملیشیا صبرا اور شاتیلا کے فلسطینی کیپسوں میں حملہ آور ہوئی۔ انہوں نے غزہ کے ہسپتال کے تمام ڈاکٹروں، نرسوں اور عملے کے افراد کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ اور انہیں اپنے علاقائی آفس جلول میں لے گئے۔ جبکہ قیدیوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ شیعہ افواج نے ہلال احمر، صلیب احمر اور دیگر طبی امداد کی تنظیموں کی ایویلنس کو اس کمپ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور فلسطینی ہسپتالوں کو پانی اور بجلی کی سپلائی بھی منقطع کر دی، جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔

20 مئی 1985ء پیر کی صبح پانچ بجے صبرا کے کمپ پر مارٹر گنوں اور 106 ملی میٹر کے دھانوں کی توپوں سے گولہ باری شروع ہو گئی۔ اسی دن براجنہ ناور پر بھی مارٹر گنوں سے شدید گولہ باری کی گئی۔ جس سے بے شمار مرد و خواتین اور معصوم بچے ہلاک ہو گئے۔

بیروت میں حافظ الأسد کے نمائندے نبیہ بری نے چھٹے بریگیڈ کے افسروں کو حکم دیا کہ وہ اس جنگ میں شیعہ تنظیم ”أهل الشیعة“ کا تعاون کریں اور لبنان میں سنی مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھرپور شرکت کریں۔ اس حکم نامے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی چھٹے بریگیڈ کے فوجی دستے اس جنگ میں شریک ہو گئے اور انہوں نے براجنہ ناور کے کمپ کو چاروں طرف سے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔

اس موقع پر یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ چھٹے بریگیڈ کے تمام فوجی شیعہ ہیں۔ مختلف ہلالین کے فوجی دستوں نے فلسطینی کیپسوں پر مارٹر گنوں سے بم برسائے اور ان پر راکٹوں سے ہولناک حملے کئے۔ جبکہ لبنانی لشکر میشل عون کی قیادت میں اس جنگ میں شریک ہوا۔ یہ لشکر فروری 1984ء میں پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا۔ اور چھٹے بریگیڈ کی فوجی اور افرادی مدد تک شریک رہا۔

18 جون 1985ء کو فلسطینی مظلوم، شیعہ کی بھڑکائی ہوئی اس ہولناک جنگ سے باہر نکلے، خفیہ پناہ گاہوں میں ایک ماہ تک مسلسل خوف و ہراس اور بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد انہیں اس

بربریت میں سینکڑوں بوڑھے، مرد و خواتین، اور بچے ہلاک ہوئے۔

(3) بیروت کے ہسپتالوں میں متعدد فلسطینی قتل کر دیئے گئے۔ اخبار سنڈے ٹیلی گراف 27 مئی 1985 کی اشاعت میں لکھتا ہے ”فلسطینیوں کی ایک جماعت کو ذبح کر کے ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔“

(4) ان وحشیوں نے غزہ کے ہسپتال میں ایک نرس کو بھی ذبح کر دیا۔ جس نے اپنے سامنے زخمی فلسطینی کو قتل کرنے پر احتجاج کیا تھا۔

(5) اسوشیڈ برس ایجنسی نے دو عینی گواہوں کے حوالے سے لکھا کہ ”اہل الشیعہ“ کے سپاہیوں نے ایک ہفتے کے دوران ان تین کیمپوں سے بیسیوں زخمی افراد اور شہریوں کو جمع کر کے قتل کر دیا۔

(6) دو اور عینی گواہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ”اہل الشیعہ“ اور چھپے بریگیڈ کے فوجیوں کو دیکھا کہ انہوں نے غزہ کے ہسپتال اور نواحی علاقے سے 45 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔

(7) ایک فلسطینی مظلوم عورت لاشوں میں سے اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی: ”یہودی ان بد بختوں سے افضل ہیں۔“ اس نے زوردار چیخ ماری۔ اسے اپنا بھائی مل گیا تھا۔ مگر اس وقت تک اس کی لاش گل سرچکی تھی اور کیڑے مکوڑے اور کھیاں اس کے جسم پر ریگ رہے تھے۔

(8) 2 جون 1985ء کو ”اہل الشیعہ“ کے قاتلوں نے مغربی بیروت کی شاہراہوں پر فتح کا جشن منایا اور جلوس نکالے۔ صبرا، شاتیلہ اور براجنہ ناور کے کیمپوں کو برباد کرنے کے بعد ان فاتحانہ جلوسوں میں وہ یہ نعرے لگا رہے تھے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَرَبُ أَغْدَاءُ اللَّهِ“ (اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور عرب فلسطینی اللہ کے دشمن ہیں) ”اہل الشیعہ“ کے ایک کمانڈر نے بیان دیا کہ وہ لبنان سے فلسطینیوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ اگرچہ یہ جنگ کئی سالوں پر محیط ہو جائے۔

[دیکھئے: جریدة الوطن الكويتية۔ 1985/6/3 بحوالہ: أمل و المحييمات الفلسطينية۔ صفحہ 99]

(9) کویت کی خبر رساں ایجنسی اور الوطن اخبار نے 4 جون 1985ء اور 3 جون 1985ء کے اخبارات میں یہ خبر دی کہ ”اہل الشیعہ“ کے غاصبوں نے نہایت مجرمانہ فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے صبرا کے کیمپ سے کیمپ والوں کے سامنے 25 دو شیزاؤں کو اٹھالیا اور ان کے ساتھ بد فعلی کرنے کے

لئے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔

اوپر بیان شدہ نکات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ”اہل الشیعہ“ کا سب سے اہم فریضہ فلسطینی مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے جو کہ یہودیوں سے مقبوضہ فلسطین کو آزاد کرانے کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں شیعہ کی اس تحریک اور فلسطینی مسلمانوں کے خلاف ان کی سرگرمیوں کے بارے اور کسی چیز کا علم نہیں، سوائے اس کے کہ شیعہ کا عقیدہ ہی انہیں سنی مسلمانوں کی دشمنی اور نفرت پر ابھارتا ہے۔ شیعہ، سنی مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور انہیں یہود و نصاریٰ کے برابر بلکہ ان سے بڑے کافر قرار دیتے ہیں۔

اسی لئے توفیق المذہبی بیان کرتے ہیں: ”اہل الشیعہ“ کا ضمنی پروگرام فلسطینیوں کی مسلح جدوجہد کا خاتمہ کرنا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک فلسطینی مجاہدین شیعہ معاشرے کے امن و امان کے لئے مرکزی خطرہ ہیں۔ ان کا یہی مؤقف اسرائیل کو جنوبی لبنان میں مسلح کارروائیاں کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے۔“

[دیکھئے: ”أمل و حزب الله في حلبة المحابيات“ صفحہ 81]

اسی لئے جب اسرائیلی فوج شیعہ کی مدد و تعاون سے فلسطینی قبائل کو تہس نہس کرنے کے بعد لبنان میں داخل ہوئی تو جنوبی لبنان کے شیعوں نے اسرائیلی یہودی لشکروں کا استقبال پھولوں کے ہاروں اور گلدستوں کے ساتھ کیا۔ اس استقبال کی روداد صبی الطفلی نے اخبار الشرق الاوسط کو اپنے 29 جنوری 1424ھ بموافق 25 ستمبر 2003ء کے انٹرویو میں بیان کی ہے۔ اخبار کا خصوصی نمبر 9067 ہے]

اس بات کی توثیق حزب اللہ کے ناظم ”حسن نصر اللہ“ نے کتاب ”بجل النور“ کے صفحہ 227 پر بھی کی ہے۔ بحوالہ: عراق بلا قيادة از عادل رؤوف، صفحہ 226]

”اہل الشیعہ“ کا ایک لیڈر حیدر الدایخ کہتا ہے: ”ہم اسرائیل کے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے تھے مگر اسرائیل نے ہماری مدد کے لئے اپنے تمام ذرائع کھول دیئے اور اسرائیل نے فلسطینی دہائی دہشت گردی کو جنوبی لبنان سے ختم کرنے میں ہماری زبردست مدد کی۔“ [دیکھئے مجلۃ الأسبوع العربی میں حیدر الدایخ کا المراجع، تاریخ 1983/10/24ء]

ملک لبنان میں شیعہ کی تنظیم ”حزب اللہ“

قائم کرنے والے لیڈر کون ہیں؟

(1) "أمل الشيعة" کے لیڈر ہی "حزب الله" کے لیڈر ہیں:

ایران نے درج ذیل قائدین کے ذریعے سے ایک نئی تحریک "حزب الله" کے نام سے قائم کرنے میں بھرپور تعاون کیا۔

۱۔ محمد حسین فضل الله، ان کا لقب "لبنان کا خمینی" ہے۔

۲۔ صبحی الطفیلی

۳۔ حسن نصر الله

۴۔ ابراہیم الامین

۵۔ عباس موسوی

۶۔ نعیم قاسم

۷۔ زحیر سنج

۸۔ محمد یزبک

۹۔ راغب حرب

[دیکھئے کتاب: حزب الله من الحلم الأبدیولوجی إلى الواقع السیاسی لبنان العزی، صفحہ 32،

اور "أمل و المحیطات الفلستینیة" صفحہ 179]

لیکن بہت جلد ہی ان قائدین کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے کیونکہ ان میں سے ہر شخص لبنان کے شیعہ علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لئے کوشش کر رہا تھا۔ ان اختلافات کی وجہ سے شیعہ کی دونوں تنظیموں کے درمیان خونریز لڑائیاں لڑی گئیں۔ بالآخر جنوب کے علاقے میں "حزب الله" اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور شیعہ آبادی میں ان کی عوامی حمایت دن بدن بڑھتی گئی۔ کیونکہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے بہت سارے منصوبے شروع کئے تھے جو ایرانی کی بھاری امداد کے ساتھ مکمل ہوتے رہے۔

حزب الله دور حاضر میں سنی مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن جماعت کے رُوپ میں ابھری ہے۔ جو پورے عالم میں سنیوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ یہ جماعت ظاہر اُیہود و نصاریٰ کے خلاف

علم جہاد بلند کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ عالم اسلام میں شیعہ مذہب کے فروغ اور خمینی کے شیعہ انقلاب کو کامیاب بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔

(2) "حزب الله" اور "أمل الشيعة" دونوں تنظیمیں ایرانی ہدایات کے مطابق اپنا ایجنڈا مکمل کرتی ہیں۔

اس بات میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ "حزب الله" لبنان میں ایک ایرانی تنظیم ہے۔ اس کی دلیل خود اس کی تاسیسی دستاویز میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ "ہم کون ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے؟"

لہذا اس دستاویز میں حزب الله کا تعارف ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ہم "حزب الله" کے ارکان ہیں جس کے ہر اول دستے کو اللہ تعالیٰ نے ایران میں کامیابی عطا کی اور دنیا میں اسلامی حکومت کی نشاۃ ثانیہ ہوئی۔ ہم ایک مدبر، عادل حاکم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں جو بذات خود ولی، فقیہ اور امامت کی شرائط پر پورا اُترتا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارا لیڈر امام آیت الله العظمیٰ روح الله الموسوی خمینی ہے۔ جن کے ذریعے سے مسلمانوں نے ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہوئی۔ [دیکھئے: جہاد الحزب فی کتاب: "حزب الله رؤیة مغامرة، صفحہ 226]

حزب الله کے لیڈر ابراہیم الامین اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: "ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایران کا ایک جز ہیں۔ بلکہ ہم تو لبنان میں ایران اور ایران میں لبنان کی حیثیت رکھتے ہیں۔" [دیکھئے اشہار "انصار"، مؤرخہ 5 مارچ 1987]

(3) حسن نصر الله کون ہے؟ اس کی جماعت "حزب الله" کون ہے اور "أمل الشيعة" کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟

حسن عبد الکریم نصر الله جسے عرب کا خمینی کہا جاتا ہے، وہ 21 اگست 1960 میں پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اسے ضلع صو سے شہر بازوریہ میں "أمل الشيعة" کا مسئول بنایا گیا۔

1976ء میں یہ عراقی شہر نجف میں شیعہ امامی تعلیم کے حصول کے لئے چلایا گیا۔

پھر اسے أمل تنظیم کا صوبہ البقاع میں مسئول مقرر کیا گیا اور پھر 1982ء میں سیاسی دفتر میں رکن

بنادیا گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ شخص اہل الشیعہ سے الگ ہو گیا اور اس نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1985ء میں اسے بیروت میں حزب اللہ کا مسئول بنایا گیا۔ [جن دنوں حسن نصر اللہ بیروت میں حزب اللہ کا مسئول تھا تو فلسطینی کیمپوں میں اہل الشیعہ کی فتنہ گردی اور قتل و غارت پر حسن نصر اللہ نے مجرمانہ خاموشی اختیار کئے تھے۔ حسن نصر اللہ صبر اور شائستگی کے کیمپوں میں اہل الشیعہ کی بد معاشی اور خون ریزی پر بھی خاموش رہا۔ حالانکہ یہ وہی شخص ہے جو فلسطینی لوگوں کی حمایت میں یہودیوں کے خلاف جہاد کا اعلان اپنے خطابات میں کرتا رہتا ہے] پھر 1987ء میں اسے مرکزی قائدین کمیٹی اور حزب اللہ کی مجلس عاملہ کا رکن بنادیا گیا۔ 1992ء میں تنظیم کے جنرل سیکرٹری عباس الموسوی کے قتل کے بعد اسے تنظیم کا جنرل سیکرٹری چن لیا گیا۔

1993ء اور 1995ء میں اسے دوبارہ اس عہدے کے لئے منتخب کیا گیا۔ [حسن نصر اللہ کا یہ تعارف نامہ ”مجلہ الشاہدایا“ میں 3 جنوری 1999ء کی اشاعت میں چھپا ہے]

(4) حسن نصر اللہ کے شیعہ تنظیم ”اہل الشیعہ“ کے ساتھ تعلقات:

گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ ”اہل الشیعہ“ کی تنظیم سازی موسی الصدر کی تھی اور اس کے تعلقات شیعہ کے ساتھ نہایت مضبوط تھے۔ جن کا کچھ ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

8 اکتوبر 1983ء کو شیعوں کے مفتی عبداللہ میر قزلبان نے شیعہ مجلس اعلیٰ کا درج ذیل بیان جاری کیا: ”اہل الشیعہ“ شیعوں کی بنیادی تنظیم ہے جسے شیعوں کی ریزہ کی ہڈی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لہذا اہل کے اعلانات کو ہم شیعہ کی مجلس اعلیٰ کے احکام کی حیثیت سے قبول کریں گے۔ اس لئے شیعہ مجلس اعلیٰ جو حکم صادر کرے۔ تنظیم اس کی پابند ہوگی۔ [دیکھئے: ”مجلہ المستقل“، 8 اکتوبر 1983ء، بحوالہ: اہل الحیئات الفلسطینیہ، صفحہ 184] ”اہل“، تنظیم کے اراکین نے شیعہ کے لیڈر شیعہ کی بیعت بھی کی اور انہیں پوری دنیا میں شیعہ اور مسلمانوں کا امام قرار دیا۔ [دیکھئے: اکنامت میگزین، 4 مئی 1982ء، کی اشاعت]

اس تائید و حمایت کا اظہار ”اہل الاسلامیہ“ کے ساتھ فسادات کے بعد کیا گیا۔ جب کہ ”اہل الاسلامیہ“ اپنے نئے نام ”حزب اللہ“ کے ساتھ میدان کارزار میں اتر چکی تھی۔

”اہل الشیعہ“ کے نائب رئیس حسین الموسوی نے اختلاف کے بعد اہل سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر کے ایک نئی تنظیم ”اہل الاسلامیہ“ کا اعلان کر دیا جو بعد میں ”حزب اللہ“ کے نام سے مشہور ہوئی۔

[حزب اللہ اور اہل الشیعہ کے اختلافات اور اس کے اسباب کے لئے دیکھئے کتاب: ”حزب اللہ رؤیة مغامرة، صفحہ 117-122، ما: حزب الله من الحلم الابد یولوجی إلى الواقعية السياسية، صفحہ 23`53`56]

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل تنظیم کے عسکری اور سیاسی کردار میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا بلکہ ایرانی سیاست کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا کردار تبدیل کرتی رہی اور لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔

یہ ہے وہ حزب اللہ جس کی مدد و حمایت میں بعض جاہل سنی مسلمان بڑے زور و شور سے شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ فلسطینی بے گناہ سنی مسلمانوں کے قتل میں حسن نصر اللہ کے تعلقات شیعہ قاتلوں کے ساتھ نہایت مضبوط ہیں۔ جبکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سنی مسلمانوں کی خاطر جہاد کر رہا ہے۔

حسن نصر اللہ کی حقیقت کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ وہ جعفری شیعہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینا اور ان پر لعنتیں بھیجنا اپنا دین سمجھتے ہیں اور تقرب الہی کے حصول کا ذریعہ مانتے ہیں۔

مصر کے نامور عالم دین الشیخ یوسف القرضاوی حفظہ اللہ نے حسن نصر اللہ کے متعلق ایک انٹرویو میں بیان کیا ہے کہ وہ نہایت متشدد عالمی شیعہ ہے۔ [الشیخ یوسف القرضاوی نے یہ انٹرویو 3 ستمبر 2006ء کو ”الوطن“ اخبار کو کیا تھا۔ اسی انٹرویو میں شیخ محترم نے علاقے میں شیعہ اثر و رسوخ میں اضافے کے خطرے سے خبردار کیا تھا۔ خصوصاً مصر میں شیعہ حمایت میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عراق میں سنی مسلمانوں کے قتل و غارت کی ذمہ دار شیعہ تنظیمیں ہیں۔ جو بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں لہذا ایسے سنی مسلمانوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے جو اس شخص کی مدد و حمایت کرتے ہیں حالانکہ وہ صحابہ کرام اور مومنوں کا بدترین دشمن ہے۔

اگر یہ شخص واقعی سنی مسلمانوں کا ہیرا و درجہ جہاد ہو اور اسرائیلی یہودیوں کا حقیقی دشمن ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹیلی وژن اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اسرائیل کو کھلم کھلا دھمکیاں دے، عوامی جلسوں میں انہیں لاکارے اور پھر بغیر کسی خوف و خطر پورے ملک میں ٹھٹھا پھرے اور کوئی اسرائیلی میزائل اس کی گاڑی، گھریا جلسہ گاہ کو نشانہ نہ بنائے؟

لہذا اے سنی مسلمانو! کھوکھلے نعروں اور خلاف حقیقت سیاسی شعبہ بازیوں کے دھوکے میں آ کر اس غیبت شیعہ تنظیم کے دام میں مت پھنسو۔ کیونکہ ”اہل الشیعہ“ کی سیاہ تاریخ سنی مسلمانوں کے خلاف جرائم

سے بھری پڑی ہے۔

”اصل الشیعة“ کے اس رسوا کن کردار اور مجرمانہ کارروائیوں کے معلوم ہونے کے بعد کہ جن کا انکار کرنا کسی شخص کے لئے بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا کوئی ذی ہوش شخص اس جماعت پر اعتماد کر سکتا ہے؟ اسی مجرم جماعت سے ”حزب اللہ“ کی تشکیل ہوئی ہے۔ کیا سنی مسلمانوں کے لئے اس بدکردار شیعہ تنظیم پر بھروسہ کرنا ممکن ہے؟

اگر ان دونوں تنظیموں کے درمیان چند سال قبل خونی جھڑپیں ہوئیں ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ بلکہ ازل سے باطل قوتوں کا حال اسی طرح رہا کہ وہ باہم برسہا برس پیکار رہتے ہیں اور ان میں حقیقی اتحاد و اتفاق کبھی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم مشرب یہودیوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جُنُودًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى) سورہ شہر: 14

”ان کی آپس کی لڑائی (دشمنی) بہت سخت ہے۔ آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں۔ جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لئے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔“

نیز ارشاد فرمایا (وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) سورہ مائدہ: 64

”اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔“

اور ان کے جتنی بھائی عیسائیوں کے بارے میں فرمایا۔

فَأَعْرَضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) سورہ مائدہ: 14

”چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔“

لہذا ان کا ظاہری اتحاد سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، ان کے دل باہمی نفرت و حسد میں شعلہ زن ہیں۔

☆☆☆

لبنانی شیعہ تنظیم ”حزب اللہ“ کے بانیان

اور اس کے پیروکاروں کے عقائد

”حزب اللہ“ اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ شیعیت ہے۔ وہ خود کو شیعہ جعفری اثنا عشری قرار

دیتے ہیں اور اسی فرقے کے عقائد اپناتے ہیں۔ ان کے اہم ترین عقائد درج ذیل ہیں۔

(1) آئمہ کی شان میں غلو:

رافضی شیعہ اہل بیت کی شان میں بے حد غلو کرتے ہیں اور انہیں گناہوں سے معصوم قرار دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شیعہ امام غیب کی ہر ہر چیز کو جانتے ہیں اور اثنا عشریہ فرقے کے امام جب چاہیں جو چاہیں غیبی امور کو معلوم کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنی موت کا علم ہوتا ہے اور ان کے اپنے اختیار اور مرضی کے بغیر انہیں موت بھی نہیں آتی۔ [دیکھئے: اصول الکافی، موفہ کلینی: 258/1] حتیٰ کہ انہوں نے مبالغہ آمیزی میں انتہا کرتے ہوئے اپنے آئمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام انبیائے کرام اور رسولوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس عقیدے کا اظہار ان کے ملا مجلسی نے اپنی کتاب ”مرآة العقول“ میں کیا ہے۔ [دیکھئے: 290/2]

ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے آئمہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ [دیکھئے کتاب: ”مدینہ المعاجز مؤلفہ: ہاشم المرعانی، یہ کتاب اس قسم کے خرافی عقائد سے بھری ہوئی ہے] بلکہ حضرت علیؑ بن ابی طالب کو خود الہی صفات کا حامل قرار دے دیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ ہی ”الراجفہ“ (کا پٹنے والی) اور ”الصاعقہ“ (بجلی) ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت علیؑ ہی نہروں کو چلانے والے، درختوں کو برگ و بار سے رونق دینے والے ہیں۔ انہیں سینوں میں چھپے ہوئے ہر راز کا علم ہے اور اسمائے حسنی سے مراد بھی آپ ہی ہیں جن کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ [دیکھئے: رجب البری کی کتاب: مشارق أنوار القین، صفحہ 268]

ہم ایسے پر اگندہ عقائد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

(2) تحریف قرآن کریم کا عقیدہ:

شیعہ کا بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید میں تحریف و تبدیلی کی ہے۔ [قرآن مجید میں تحریف کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے شیعہ نے متعدد کتب لکھی ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین کتاب ”فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الأرباب“ ہے جو شیعہ محدث مرزا حسین نوری کی تالیف ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ کی متعدد معتمد علیہ کتب میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے۔ عام طور پر شیعہ اس عقیدے سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی شیعہ عالم کی طرف سے مرزا حسین کی

اس کتاب کی تردید نہیں کی گئی۔ ان کی طرف سے اس مؤلف کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا نہ عوام کو اس کتاب کی خباثت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ کا اس کتاب کے مندرجات سے متفق ہونا یقینی ہے اور اس عقیدے کا بظاہر رد کرنا صرف اور صرف منافقت ہے۔

مرزا حسین نوری شیعہ کے نزدیک عظیم محدث اور ثقل اکبر ہے۔ لیکن اس کی خرافات پر شیعہ مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہ ہر اس شخص کو کافر اور گمراہ قرار دیتے ہیں جو حضرت علیؑ کی ولایت اور آئمہ کی امامت کا انکار کرے۔ ایسے لوگوں کو شیعہ ثقل اصغر قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کے کردار کا تضاد اور خباثت بالکل واضح ہے [اور ان کے شیعہ آئمہ کے سوا کسی شخص کو پورا قرآن مجید یا نہیں اور نہ کتابی شکل میں اس کے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کو صرف حضرت علیؑ اور ان کے بعد شیعہ کے آئمہ ہی نے حفظ کیا اور جمع کیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے اوصیاء کے سوا کوئی شخص مکمل قرآن مجید یاد کرنے یا کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

شیعہ کا قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم ﷺ کے پاس لے کر آئے تھے اس میں سترہ ہزار آیات تھیں۔ [دیکھئے کلینی کی کتاب اصول الکافی: 634/2 شیعہ علامہ مجلسی نے مرآۃ العقول میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھئے: 525/12] جبکہ موجودہ قرآن میں تقریباً ساڑھے چھ ہزار آیات ہیں)

ان کے اس تحریفی عقیدے کا اعتراف شیعہ عالم جو کہ صدر الحکماء اور رئیس العلماء کے القابات سے یاد کئے جاتے ہیں۔ اس نے بھی کیا ہے۔ ان کے علاوہ نعمت اللہ الجزازی نے اس عقیدے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: ”شیعی روایات میں مروی ہے کہ شیعہ آئمہ علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ وہ موجودہ قرآن کو نمازوں اور دیگر مواقع پر پڑھتے رہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ ہمارا مولا صاحب الزماں امام غائب نمودار ہو جائے تو پھر یہ موجودہ قرآن لوگوں سے چھین کر آسمان کی طرف اٹھالیا جائے گا اور وہ امیر المومنین علیؑ کا لکھا ہوا قرآن مجید نکالیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے احکامات کے مطابق عمل ہوگا۔“ [دیکھئے کتاب: الأنوار النعمانیة: 363/2]

(3) آئمہ کی عصمت اور ولایت کا عقیدہ:

شیعہ اپنے بارہ آئمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ [شیعہ عالم محمد رضا المظفر اپنی کتاب ”عقائد امامیہ“ میں لکھتا ہے: ”عقیدہ امامت و ولایت دین کے اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں [تا] ان کے نزدیک ان کے آئمہ ہر قسم کی خطا اور گناہ سے معصوم ہیں۔ ان بارہ آئمہ کی یکے بعد دیگرے ولایت کے بھی قائل ہیں اور جو ان کے اس عقیدے کا انکار کرے وہ ان کے نزدیک کافر اور گمراہ ہے۔ ان کے اسی عقیدے کی بنا پر ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی (رضی اللہ عنہم) کافر ہیں (نعود باللہ من ذلک)، کیونکہ ان کی شیعی روایات کے مطابق یہ تین حضرات، حضرت علیؑ سے خلافت چھیننے کے بعد کافر اور مرتد ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کے نزدیک عقیدہ ولایت تمام اعمال کے قبول ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی لئے ملا مجلسی نے اپنی کتاب ”بحار الانوار میں ایک عنوان قائم کیا ہے: ”تمام اعمال کی قبولیت عقیدہ ولایت پر منحصر ہے۔ (2) [دیکھئے: 166/27۔ مذکورہ کتاب شیعہ اثنا عشریہ کے حدیث کے آٹھ بنیادی مصادر میں سے ایک اہم کتاب ہے]

(4) صحابہ کرامؓ اور امہات المومنینؓ کے بارے میں شیعہ عقائد:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں رافضی شیعہ کے عقائد بد کی ایک جھلک درج ذیل ہے۔

۱۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنیؓ کو گالیاں دینا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا شیعہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے بہترین عمل ہے۔

۲۔ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو لعن ملین کرنا ان کے ہاں ثواب عظیم کا باعث ہے۔ [دیکھئے: نور اللہ مرثی کی کتاب: ”احقاق الحق“ 337/1 میں قریش کے دو طاغوتوں کی دعا]۔

۳۔ یہ بد بخت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں۔ [دیکھئے: زین الدین

العالی الباہلی البیاضی کی کتاب: ”الصراف المستقیم الی مستحقہ التقدیم: 165/3]

۴۔ ام المؤمنین عائشہؓ اور حصہؓ پر نبی کریمؐ کو قتل کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ [دیکھئے کتاب: من قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤلفہ: تاج الطائف]

۵۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد و کافر ہو گئے تھے۔ سوائے سات یا دس صحابہ کرام کے۔

(5) اثنا عشری شیعہ کے علاوہ لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ:

رافضی شیعہ بغیر کسی استثناء کے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ جناب عبد اللہ شبیر نے اپنی کتاب ”حق البقین“ میں شیعہ امامیہ کا اس عقیدے پر اتفاق نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: اشیخ مفید بیان کرتا ہے کہ امامیہ شیعہ کا اتفاق ہے کہ جو شخص ہمارے آئمہ میں سے کسی امام کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ امام کی پیروی کا انکار کرے تو وہ کافر اور گمراہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید رہے گا۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: ”امامیہ شیعہ کا اس عقیدے پر بھی اتفاق ہے کہ تمام بدعتی گروہ کافر ہیں اور امام ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کرے گا جبکہ امام کو ان پر غلبہ اور قوت حاصل ہو جائے۔ امام انہیں دعوت دے گا۔ انہیں دلائل سے قائل کرے گا پھر اگر وہ توبہ کر کے بدعات ترک کر دیں اور شیعہ امامیہ مذہب قبول کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دے۔ اور اگر کوئی شخص توبہ کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ جہنمی ہوگا۔ [دیکھئے کتاب: حق البقین فی معرفۃ اصول الدین مؤلفہ: عبد اللہ شبیر، 189/2]

جبکہ یوسف البحرانی نے یہ نقل کیا ہے کہ اصل حق کا ہر مخالف بھی کافر ہے۔ بیان کرتا ہے: ”اہل حق کا مخالف کافر ہے اور اس پر کافروں جیسے امکانات لاگو کرنا واجب ہے۔“ [دیکھئے: یوسف بحرانی کی کتاب: ”الشہاب فی بیان معنی الناصب، صفحہ 85]

ان کے علامہ شیخ محمد الشیرازی نے مزید آگے بڑھتے ہوئے اثنا عشری شیعہ کے سوا تمام گروہوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اور انہیں عیسائیوں کے مشابہ بتایا ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”شیعہ اثنا عشریہ کے سوا شیعہ کی تمام اقسام کے بارے میں شیعہ نصوص نے دلالت کی ہے کہ وہ کافر ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بے شمار نصوص میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے امام کی امامت کا انکار کیا اس کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دینے والے عیسائی کا ہے یعنی وہ کافر ہے۔ [دیکھئے: بحر الشیرازی کی کتاب: موسوعة الفقه، 269/4 مزید

التفصیل کے لئے عبد اللہ سلفی کی کتاب: ”الشیعہ الاثنا عشریہ و تکفیرہم لعموم المسلمین“ دوسری طبعہ میں انہوں نے ایسی بے شمار نصوص بیان کی ہیں۔ جن میں مسلمان جماعتوں کو کافر قرار دیا گیا ہے [شیعہ اثنا عشریہ تمام اہل اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ [دیکھئے: یوسف بحرانی کی کتاب: ”الشہاب الثاقب فی بیان معنی الناصب۔“ اسی لئے حسن نصر اللہ نے ”فؤادان“ میگزین میں 31 مارچ 1995ء کو لکھا کہ ہم سنی، وہابی تحریک کو اسلامی تحریک تسلیم نہیں کرتے اور نہ یہ قبول کرتے ہیں کہ وہ صحیح اسلامی راہ پر ہیں۔“ یہ ان خطابات میں سے ایک ہے جن میں شیعہ اثنا عشریہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں]

فقیر پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ [دیکھئے: جواد ترمذی کی کتاب: ”الأدلة الحلیة علی جواز التقیة“] اور قیامت سے پہلے اپنے آئمہ کی رجعت کا عقیدہ بھی ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ [دیکھئے کتاب: ”الإبقاء من المحمعة بالبرہان علی الرجعة“ مؤلفہ: عالمی صفحہ 64]

الغرض ”حزب اللہ“ ایک شیعہ تنظیم ہے جس کا مقصد عالم اسلام میں شیعہ انقلاب برپا کرنا ہے۔ وہ اسے ولایت فقیہ کا نام دیتے ہیں۔ انہوں نے علاقے میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات کو اپنی دعوت پھیلانے کے لئے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بڑے خوش فرائد لگائے ہیں جن سے عالم اسلام کے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں۔

(6) حزب اللہ کا عقیدہ ”ولایت فقیہ“ سے کیا مراد ہے:

ولایت فقیہ شیعہ کا دینی عقیدہ اور سیاسی بدعت ہے جس کی بنیاد شیعہ لیڈر خمینی نے رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی ریاست و قیادت کا زیادہ حق دار وہ شخص ہے جس میں متعین فقہی و دینی شروط پائی جائیں۔ اور وہ امام منتظر کا نائب شمار ہوگا۔ لہذا کوئی بھی حکم نامہ جاری کرنا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو دینی ولی کی طرف رجوع کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جسے امت کے لوگ منتخب کریں گے تاکہ وہ امام مہدی منتظر کا نائب ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی راہنمائی کر سکے۔

حزب اللہ خمینی کی ولایت میں پروان چڑھی۔ گزشتہ صفحات میں بھی ذکر ہو چکا ہے اور آگے بھی اس بات کا کچھ تذکرہ ہوگا کہ حزب اللہ اصل میں ایرانی تنظیم ہے اور وہ ولایت دین میں ایرانی انقلابی لیڈر خمینی کی پیروی کا رہے۔ خمینی کا جانشین علی خامنہ ای ہے۔

ذیل میں خمینی کی کتاب ”الحکومة الاسلامیة“ سے چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جن

میں مبنی نے اپنے عقائد براء اور ولایت فقیہ کی وضاحت کی ہے۔

(1) ”موجودہ دور میں فقہاء ہی لوگوں کے لئے حجت و برہان ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے لئے حجت و دلیل تھے، اس لئے جو شخص بھی فقہاء کی اطاعت سے کنارہ کشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا مؤاخذہ کرے گا اور اس سے نافرمانی کا حساب لے گا۔“ [دیکھئے: مبنی کی کتاب: ”الحکومة الإسلامية“ طبعہ مؤسسہ تنظیم و نشر تراث الامام الحسینی، طبعہ چہارم، صفحہ 109]

(2) ”اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو تمام مومنوں کا ولی بنایا ہے۔ آپ کے بعد امام علی علیہ السلام تمام لوگوں کے ولی ہیں۔ اور آپ دونوں کی ولایت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے شرعی احکام تمام لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ بعینہ یہی ولایت آج کے فقیہ کے پاس ہے، بس صرف ایک فرق ہے [مبنی نے یہ ذرے برابر جو فرق کیا ہے وہ صرف دھوکہ دہی ہے وگرنہ ان کے عقیدے کے مطابق ولایت فقیہ، آئمہ معصومین کی ولایت ہی کا تسلسل ہے۔ یہ فرق صرف دینی تسلط و غلبہ کے حصول کے لئے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں] کہ ایک فقیہ دوسرے فقہاء کو معزول یا عہدے کا حق دار قرار نہیں دے سکتا [اگر مبنی اپنے اس بیان میں سچا تھا تو اس نے آیت اللہ شریعت داری کو معزول کیوں کیا۔ اس کے علمی اور دینی القابات اور اعزازات سلب کیوں کئے؟ اور اپنے وقت میں اپنے ہی نائب آیت اللہ العظمیٰ علی منتظری کو کیوں معزول کیا اور اسے جبری طور پر عہدے سے ہٹا دیا؟ کیا یہ صرف اس لئے تھا کہ انہوں نے ولایت فقیہ پر اعتراض کیا تھا اور فقیہ کے اختیارات کو متعین کرنے کی ضرورت سے آگاہ کیا تھا؟ جس کی سزا انہیں اپنے عہدوں سے معزولی کی صورت میں ملی] کیونکہ تمام فقہاء ولایت کی اہلیت میں برابر ہیں۔ [دیکھئے: مبنی کی کتاب: ”الحکومة الإسلامية“ طبعہ چہارم، صفحہ 74-73]

(3) لہذا جب کوئی فقیہ عالم عادل شخص حکومت کی تشکیل کی کوششیں کرے تو اسے معاشرے کے ان تمام امور کی سرپرستی حاصل ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی۔ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس فقیہ کی اطاعت بجالائیں اور اس کے احکام کی پیروی کریں۔ [دیکھئے: مبنی کی کتاب: ”الحکومة الإسلامية“ طبعہ چہارم، صفحہ 72]

شیعہ کا عالم آیت اللہ العظمیٰ السید محمد حسین فضل اللہ کہتا ہے: ”فقیہ کی رائے تمام اشیاء میں شرعی حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ کیونکہ فقیہ امام معصوم کا نائب ہوتا ہے اور امام معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے۔ لہذا جس طرح نبی مکرم تمام مومنوں کی جانوں کے ان سے بھی زیادہ حق دار ہیں اسی طرح امام بھی لوگوں کی

جانوں کا ان سے زیادہ حق دار ہے۔ اسی طرح عادل فقیہ بھی مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ حق دار ہے۔ [دیکھئے: محمد حسین فضل اللہ کی کتاب: ”ولایت فقیہ“ صفحہ 46، بحوالہ ”حزب اللہ رویہ مغایرہ“ صفحہ 61]۔ لہذا درحقیقت ہر چیز کا شرعی حکم فقیہ کے حکم ہی سے لاگو ہوتا ہے۔ [دیکھئے: محمد حسین فضل اللہ کی کتاب: ”ولایت فقیہ“ صفحہ 24]۔

حزب اللہ کن کے مفادات کی نگران ہے؟

اور اسے مالی امداد کون فراہم کرتا ہے؟

حزب اللہ کے تمام مالی اخراجات ایرانی حکومت ادا کرتی ہے۔ [ایرانی حکومت حزب اللہ کو مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ ”الشکر بدر“ اور ”جیش المہدی“ نامی عراقی تنظیموں کو بھی ایرانی حکومت ہی اخراجات فراہم کرتی ہے۔ یہ دونوں برصغیر میں ایرانی دولت کے ساتھ عراق میں سنی مسلمانوں اور سنی علمائے کرام کے قتل میں مشغول ہیں اور ایرانی شیعہ کی حمایت سے سنی مساجد پر قبضہ جاری ہیں] ایک تخمینے کے مطابق 1990ء میں اس کا سالانہ بجٹ ساڑھے تین ملین ڈالر تھا۔ جو 1991ء میں بڑھ کر پچاس ملین ڈالر ہو گیا، 1992ء میں یہ رقم 120 ملین ڈالر ہو گئی جبکہ 1993ء میں اس میں مزید اضافہ ہوا جس سے اس کا بجٹ 160 ملین ڈالر ہو گیا۔ [دیکھئے: ”الشرع“ میگزین میں زین محمود کا مضمون ”حزب اللہ من الداخل أسرار و حفايا، 14 اگست 1995ء کی اشاعت۔ نیز ڈاکٹر ولید عبدالناصر کی کتاب ”ایران دراسته عن الثورة والدولة“ کا صفحہ 83 دیکھیں۔ بحوالہ: حزب اللہ رویہ مغایرہ، صفحہ 162] جبکہ کچھ مصادر یہ بھی کہتے ہیں کہ رفسنجانی کے دور میں اس کا بجٹ 280 ملین ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ [دیکھئے: ”الجملة“ میگزین شمارہ نمبر 1013، 11 جولائی 1999ء کا شمارہ]۔

یہ بھاری بھرکم بجٹ ایرانی حکومت کے احکامات اور اس کے مفادات کی نگرانی کے لئے مختص تھا۔ جبکہ ملکی داخلی مسائل سے حزب اللہ کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس بجٹ سے حزب اللہ کو اپنے جنگجو لشکر میں خاطر خواہ اضافہ کرنے میں بڑی مدد دی۔ حزب اللہ نے لوگوں کی حمایت ان کی ضروریات پوری کر کے خرید لیں۔ اس نے لوگوں کے اخلاص اور ولایت کو ذرا روں کے ساتھ خرید لیا۔ لہذا ہر شخص اس کا حصہ بنتا گیا۔ حتیٰ کہ ایک جنگجو کو ماہانہ پانچ ہزار لبنانی لیرہ تنخواہ ملنے لگی۔ اور لبنان میں 1986ء میں کسی جنگجو کی یہ سب سے بھاری تنخواہ تھی۔

[یہ تجوہان دونوں میں تھی جب کہ ابھی لبنانی کرنسی بڑی مضبوط اور مستحکم تھی]

اس بھاری لالچ نے ”أمل الشیعة“ کے جنگجوؤں کو اپنی تحریک چھوڑ کر حزب اللہ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ لہذا وہ دھڑا دھڑا حزب اللہ کے رکن بننے لگے۔ [دیکھئے کتاب: ”الحرب السریة فی لبنان، صفحہ 271، اور کتاب: ”دولة حزب الله، صفحہ 136-135] اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ کی اسرائیل سے آخری جنگ میں ہونے والے تمام نقصانات کو پورا کرنے کی ذمہ داری ایرانی حکومت نے اٹھائی ہے۔ ایرانی حکومت نے تباہ ہونے والے گھر اور عمارات کو نئے سرے سے تعمیر کر کے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ایرانی حکومت نے یہ وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا ہے اور حزب اللہ شیعہ علاقوں جیسے الجوب کے نواحی علاقے ہیں، ان میں لوگوں کو مالی امداد دینا شروع کر دی ہے۔ [اخبار ”الحیلۃ الدینیة“ کے مطابق حزب اللہ نے ہر اس شخص کو 12 ہزار ڈالر دیے ہیں جس کا گھر اس جنگ میں تباہ ہوا تھا۔ یہ پہلی قسط ہے اور دوسری قسط میں تعمیرات کے لئے امدادی جائے گی۔ دیکھئے 19 اگست 2006ء کی اشاعت]۔ یہ مدد مکان کرائے پر لینے اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لئے دی جا رہی ہے۔ یہ امداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک منہدم مکانات دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے۔

☆☆☆

عالم اسلام میں حزب اللہ کی لوکل برانچیں

حزب اللہ نے خلیجی ممالک اور جزیرہ عرب میں اپنی ذیلی برانچیں قائم کی ہیں۔ جن کا منہج اور عقیدہ بیعت حزب اللہ جیسا ہے۔ ان لوکل برانچوں میں چند کا ذکر درج ذیل ہے:

(1) بحرینی حزب اللہ:

ایران میں شیعہ انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی بیرونی ممالک میں متعدد شاخیں قائم کی گئیں جو ایرانی نظام کے ماتحت تھیں۔ ان کا مقصد مختلف ممالک میں شیعہ کے ذریعے سے ایرانی اثر و رسوخ میں اضافہ تھا۔ بحرین میں ہادی المدرسی کو ”الجهیة الاسلامیة لتحرير البحرين“ کے نام سے تنظیم بنانے کی ہدایت دی گئیں۔ جس کا ہیڈ آفس تہران میں ہوگا۔ اس تنظیم نے ابتدا میں ایک بیان جاری کیا جس میں اپنے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی ہے اور وہ درج ذیل ہیں:

1- آل خلیفہ کی حکومت کا خاتمہ۔

2- بحرین میں ایرانی خفیہ انقلاب کے موافق شیعی نظام حکومت کا قیام۔

3- بحرین کو خلیجی ممالک کے اتحاد سے نکال کر ایران کے ساتھ منسلک کرنا۔ [دیکھئے: فلاح

المدرسی کی کتاب: الحركات والحجماعات السیاسیة فی البحرين، صفحہ 104-99 نیز: الأحزاب والحجماعات الاسلامیة، 539/2، اس میں بھی یہ عہد کیا گیا ہے کہ تحریک آزادی بحرین پہلے مرحلے میں آل خلیفہ کی حکومت کا خاتمہ کرے گی۔ جیسا کہ اس جماعت نے اپنے منشور میں ذکر کیا ہے۔ اور اسے بحرین میں اسلامی انقلابی تحریک کا نام دیا ہے] یہ تنظیم ایران سے متعدد میگزین شائع کرتی تھی۔ جیسے ”الشعب الثائر“ (انقلابی لشکر)، اور ”الثورة الرسالة“ وغیرہ ہیں۔

تحریک کا ذرائع ابلاغ کا نمائندہ عیسیٰ مرہون تھا۔ تنظیم کے امدادی فنڈ کے لئے ”الصندوق الحسینی الاجتماعي“ یعنی مرکزی حسینی فنڈ قائم کیا گیا۔

1979ء کے اواخر میں شیعہ بحرین کی تحریک آزادی کے مرتب کردہ مظاہروں اور جلوسوں میں بھرپور شرکت کی اور یہ مظاہرے سعودی عرب کے شیعوں کے قطیف کے مظاہروں کے موقع پر کئے گئے۔ ان مظاہروں کے بعد جب حالات دگرگوں ہو گئے تو اس تحریک کے کارکنوں نے بحرینی انٹیلی جنس کے ایک افسر کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ جس کے جواب میں حکومت بحرین نے تنظیم آزادی پر سخت پابندیاں لگا دیں اور اس کے متعدد ارکان گرفتار کر لئے۔

ان گرفتاریوں کے بعد تنظیم نے وقتی طور پر مظاہرات اور جلوس نکالنے بند کر دیئے اور آئندہ کے انقلابی اقدامات کی عملی تیاری شروع کر دی، چنانچہ بحرین میں بھاری مقدار میں اسلحہ بارود سمگل کر کے پہنچایا گیا۔ [دیکھئے کتاب: لطور الحركة الوطنیة و المعارضة فی الجزيرة العربیة، صفحہ 13] دسمبر 1981ء میں محمد تقی المدرسی کی قیادت میں تنظیم آزادی نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی مگر یہ بغاوت بری طرح ناکام ہو گئی اور حکومت بحرین نے 73 باغی ارکان اور ان کے حمایتی گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیئے۔

80 کی دہائی میں بحرین کی تحریک آزادی کے قائدین اور ایرانی انٹیلی جنس آفیسروں کا اجتماع ہوا جس میں تحریک آزادی کا عسکری ونگ قائم کرنے پر اتفاق رائے کیا گیا۔ اس ونگ کا نام: ”حزب اللہ البحرین“ رکھا گیا۔

اس جماعت کے قیام کی ابتداء ہی میں جسجہ اسلامیہ کے جنرل سیکرٹری محمد علی محفوظ کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حزب اللہ کے بحرینی ونگ کو تین ہزار شیعہ لشکری فراہم کرے گا۔ جن کی عسکری تربیت ایران اور لبنان میں ہوگی۔ [اس تنظیم کی سرگرمیاں "الامام" اخبار کے 15 جون 1996ء کے شمارے میں دیکھی جاسکتی ہیں] اس تنظیم کا سربراہ عبدالامیر البحرین کو بنایا گیا اور ان کے بعد علی سلیمان نے اس کی قیادت سنبھالی ہے۔

ہادی المدرسی تحریک آزادی بحرین کا قائد اس نئے ونگ کا مرشد اور امداد کنندہ سربراہ ہے۔ اسی طرح محمد تقی المدرسی نے اس نئے ونگ کو فکری اور اعتقادی راہنمائی دی۔

ان تمام مراحل کے بعد یہ نیا ونگ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا اور اس نے ملک میں فتنہ فساد برپا کر دیا اور کچھ اہم علاقوں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا غلبہ قائم کر لیا۔ اس تنظیم کا پہلا اور بنیادی مقصد موجودہ نظام حکومت کو ختم کر کے ایرانی شیعہ کے زیر اثر حکومتی نظام قائم کرنا تھا۔ اس بات کی تاکید و تصریح آیت اللہ روحانی کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ "بحرین، ایران کے تابع ہے اور بحرین اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک ٹکڑا ہے۔" [دیکھئے: "الحركات و الجماعات السياسية في البحرين، مؤلف: فلاح المدريس، صفحہ 100-99]۔

اس تنظیم کے اہم ترین کارنامے 1994ء میں ہونے والے فسادات، ہنگامہ آرائی اور غنڈہ گردی ہے۔ یہ بدترین ہٹلر بازی اور غنڈہ گردی مختلف تنظیمی ناموں سے کی گئی۔ مثلاً کبھی اس کا رروائی کو "منظمة العمل المباشر" اور کبھی "حركة احرار البحرين" اور کبھی "منظمة الوطن السليب" کی کارروائیاں قرار دیا گیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ساری تنظیمیں اور ان کی کارروائیاں ایک ہی جماعت "حزب اللہ البحرین" کی کارستانیات تھیں۔

بعد ازاں یہ تمام نام ایک ہی تنظیم میں مدغم ہو گئے اور نئی تنظیم "جمیۃ الوفاق الوطنی الاسلامیہ" کے نام سے قائم کر دی گئی۔ جس کی قیادت علی سلمان کو سونپی گئی۔ اس نئی تنظیم کو سیاسی اور صحافتی میدان میں خدمات کے لئے مختص کر دیا گیا۔ جبکہ عسکری اور تنظیمی کارروائیاں عسکری ونگ حزب اللہ البحرین کے سپرد کر دی گئیں۔

یہی تنظیم ایک اور فرضی نام سے اپنے ہیڈ کوارٹر لندن سے "صوت البحرین" کے نام سے ایک ماہنامہ شائع کرتی تھی۔ اس ماہنامہ میں اس نے اپنے اہداف مقاصد اور مطالبات بیان کئے۔ اسی ماہنامے میں اس نے اپنے اہداف مقاصد اور مطالبات بیان کئے۔ اسی ماہنامے میں اپنی کارروائیوں کی تفصیلات بھی بیان

کرتے۔ یہ تنظیم بعض بیرونی تنظیموں سے چندہ بھی وصول کرتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس تنظیم نے صرف لندن کے فورم سے 80 ہزار ڈالر سے زیادہ چندہ جمع کیا۔

بحرین کی حزب اللہ تنظیم، حرکتہ احرار البحرین کے اسلوب پر عمل کرتی ہے جس میں سیاسی اور دفاعی کاموں کی تکمیل شامل ہے تاکہ لوگ ان پر اعتماد کریں اور اس تنظیم کا عسکری ونگ اپنی مطلوبہ کارروائی آسانی سے مکمل کر سکے۔

حکومت احرار البحرین (بحرین کی تحریک آزادی) کے اہم ترین مؤلین درج ذیل ہیں: ۱۔ سعید الشهابی، ۲۔ مجید العلوی، ۳۔ منصور البحرین، 1996ء میں بحرین میں قتل و غارت، جلاؤ گھیراؤ اور تحریک کاری کے متعدد حادثات ہوئے۔ جن کی منصوبہ بندی ایران میں کی گئی اور ان کی تنفیذ بحرین میں ہوئی 14 مارچ 1996ء میں حزب اللہ البحرین نے ایک ہٹلر جلا دیا جو "سرتہ وادیان" کے علاقے میں واقع تھا۔ اس میں سات ایشیائی باشندے قتل ہو گئے۔ اور یہ قتل و غارت شیعہ کی دشمنی کی بدترین سیاہ واردات تھی۔ 21 مارچ 1996ء کو انہوں نے "الزبانی" گیراج کو آگ لگا دی اور شوروم میں موجود تمام گاڑیاں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں۔

پھر ان کی دشمنی اور کینہ عروج پر پہنچ گیا اور انہوں نے 6 مئی 1996ء کو 9 بڑے بڑے تجارتی مراکز میں آگ لگا دی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح ان بدکرداروں نے متعدد سکول اور پلازے جلا کر تباہ کر دیئے، کئی عوامی بجلی گھر، ٹیلی فون کی تنصیبات اور بحرین کے اسلامی بینک کو جلا دیا۔ [ان غنڈوں سے کوئی پچھنے والا نہیں کہ ان مدارس، بجلی گھروں اور ٹیلی فون تنصیبات کا کیا جرم ہے؟]

بحرین کے نیشنل بینک اور انٹرنیشنل نمائش سنٹر کو بھی انہوں نے اپنی تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ ان کی ان تمام کارروائیوں کا مقصد ملکی معیشت اور اقتصادیات کو برباد کرنا تھا۔ جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

1996ء کے پہلے چھ مہینوں میں ریڈیو تہران مسلسل فتنوں اور اضطراب انگیزی کو ہوا دیتا رہا۔ حکومت بحرین کے خلاف بغاوت کو ابھارتا رہا اور اس کے استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔

چنانچہ 13 فروری 1996ء کو ریڈیو تہران نے اتوار اور سوموار کو دودن کی تجارتی ہڑتال کا اعلان کر

دیا۔ جبکہ 15 فروری 1996ء کو اعلان کیا گیا کہ اس سال عید الفطر نہیں منائی جائے گی۔

اسی طرح 2 مئی 1996ء کو ریڈیو تہران نے بحرین کے عوام کو اپنی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کرنے اور عید الاضحیٰ کا بایکاٹ کرنے کی دعوت دی۔ [ایک طرف مسلمانوں کی متفقہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بایکاٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف خالص شیعہ عید "عید الغدیر" اور عید نیر و زنجوی کو زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قاتل ابولؤلؤ مجوسی کا تہوار بھی خاص اہتمام سے منایا جاتا ہے اور حضرت عمرؓ کے قتل والے دن خصوصی جشن منایا جاتا ہے۔ جسے "فرحہ الزہراء" کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ ظالم ایسی کسی عید اور جشن کے بایکاٹ کا اعلان نہیں کرتے!]

یہ ریڈیو حسد و دشمنی سے بھرے لوگوں کو اسی طرح ابھارتا رہا۔ حتیٰ کہ ریڈیو نے 22 مارچ 1996ء کو اعلان کیا کہ حکومت بحرین، بحرینی عوام کے مطالبات کے سامنے بے بس ہو گئی ہے اور عوامی مطالبات پورے کرنے سے عاجز آ گئی ہے۔ [دیکھئے: ریڈیو تہران کی خصوصی نشریات] عوامی مطالبات سے ان کی مراد شیعہ مطالبات تھے۔ مثلاً حکومت کا تحیہ الننا، اور اسے ایرانی حکومت کے طرز پر ایک نئی شیعہ حکومت میں تبدیل کرنا وغیرہ۔ اس بات کی دلیل کویت کی خبر رساں ایجنسی کی 15 جون 1996ء کی اشاعت میں بھی ملتی ہے۔

جس میں بتایا گیا ہے کہ کویتی حزب اللہ نے عراقی فوج کا کویت میں چھوڑا ہوا بھاری مقدار میں اسلحہ خریدا ہے اور اسے سہولت کے بحرینی حزب اللہ کو فراہم کر دیا ہے۔ چنانچہ اخبار لکھتا ہے کہ ایرانی حکومت کی طرف سے ملنے والے احکامات کے تحت بحرینی حزب اللہ طویل المدت منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ جس کے تحت اسلحہ کی سہولت بحرین میں جاری رہے گی۔ تاکہ سیکورٹی کے ادارے اس سازش کو ایک ہی مرتبہ پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس طرح اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ یہ اسلحہ مختلف خفیہ ارکان تک مختلف علاقوں میں بروقت تقسیم بھی کیا جائے۔

گزشتہ کارروائی کا اعتراف بحرینی حزب اللہ کے قائد علی احمد کاظم المتقویٰ نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے: "ہم نے ایرانی انٹیلی جنس آفیسر احمد شریفی کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کی ہے جس میں اس نے ہمیں سمندر کے راستے اسلحہ سہولت کے بحرین پہنچانے کا پروگرام دیا ہے۔"

ملزم جاسم خیاط نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اسلحہ کو سہولت کرنے کا مقصد بحرینی حکومت کا خاتمہ کرنا

ہے۔ عسکری قوت استعمال کر کے اس حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایرانی شیعہ حکومت کی ماتحت حکومت قائم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس نے یہ وضاحت بھی کی کہ پہلی سپلائی گرج چھاؤنی میں پہنچائی گئی جو کہ تہران کے شمال میں واقع ہے۔ یہ کارروائی ایرانی انٹیلی جنس آفسر محمد رضی آل صادق اور میجر وحیدی نے کی ہے۔

عوام کو حکومت کے خلاف مشتعل کرنے کا کام شیعہ خطیب علی احمد حویل کر رہا ہے۔ وہ اپنے خطابات میں لوگوں کو حکومت کے خلاف پُر تشدد کارروائیاں کرنے اور حکومت مخالف پراپیگنڈہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس نے کئی پارٹیاں تشکیل دی ہیں۔ جو بحرینی حزب اللہ میں شامل ہو کر تخریبی کارروائیاں کریں گی۔ [ان ملزمان کے اعترافات ان دنوں بحرینی ٹیلی وژن کے خصوصی پلیٹن میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ نیز ان دنوں کے بحرینی اور عربی اخبارات میں بھی ان کی تفصیل چھپی تھی]۔

اسی طرح حزب اللہ کے داعی عبدالوہاب حسین کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ وہ حزب اللہ کے اراکین کو سیکورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کے ساتھ پنپنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ وہ اراکین کی خصوصی تربیت کرتا ہے کہ کس طرح خفیہ ادارے والوں کے حساس سوالات کا جواب دینا ہے۔ لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے اور انہیں حکومت مخالف رویے پر کیسے تیار کرنا ہے۔

شیعہ خطیب عباس حویل کو محمد الریاش نامی شخص کے ذریعے سے عبدالوہاب حسین اور حزب اللہ کے لیڈر عبدالامیر الجری کی ہدایات ملتی تھیں۔

ان دنوں بحرین کے وزیر اطلاعات اور قومی اسمبلی کے سپیکر نے وضاحت کی کہ بحرینی حزب اللہ ایران کے عسکری کیمپوں میں جنگی ٹریننگ حاصل کر رہی ہے مثلاً تہران کے شمال میں واقع گرج چھاؤنی میں ایسے لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ جب ایران پر حزب اللہ بحرینی کی تخریبی کارروائیوں کے سلسلے میں سیاسی دباؤ ڈالا گیا تو یہ دہشت گرد گروپ لبنانی حزب اللہ کے معسکرات میں منتقل ہو گئے۔

ان عسکری کیمپوں میں حزب اللہ کو جدید اسلحہ، بم دھماکوں اور جسمانی دفاع کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح خفیہ معلومات جمع کر کے ہیڈ آفس تک منتقل کی جاتی ہیں۔ خفیہ اداروں کے اہم دستاویزات تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے اور ان میں کس طرح تبدیلی اور تحریف کرنی ہے۔ (92) [اس بات کی وضاحت وزیر داخلہ شیخ محمد بن خلیفہ آل خلیفہ نے کی ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے تمام اخبارات میں بھی یہ بات

دیکھی جاسکتی ہے۔]

1996ء کے فسادات اور ہنگامہ آرائی میں بحرینی حزب اللہ کے درج ذیل راہنماؤں نے بھرپور

حصہ لیا۔

۱۔ علی احمد کاظم المتقوی: اس کا تعلق مالی تنظیم اور ایرانی انٹیلی جنس کے ساتھ

رابطہ آفیسر کی ہے۔

۲۔ عادل الشعلہ۔ یہ عسکری تربیت کا ممبر ہے۔

۳۔ غلیل سلطان۔ اس کا تعلق ذرائع ابلاغ سے ہے۔

۴۔ جاسم حسن منصور الخياط۔ انٹیلی جنس اور سیکورٹی ادارے کا ممبر ہے۔

۵۔ محمد حبیب۔ یہ بحرینی شیخ ہے جو کویت میں مقیم ہے۔

۶۔ حسین احمد المدنی

۷۔ حسین یوسف علی

۸۔ غلیل ابراہیم عیسیٰ الحاکمی [اب تک بحرینی حزب اللہ کے 144 اراکین گرفتار ہو چکے ہیں۔

1996ء میں بحرینی حزب اللہ کی تحریبی کارروائیوں میں ہونے والے نقصانات کا ایک ادنیٰ سا

اندازہ ایک کروڑ باون لاکھ چوبیس ہزار چھ سو اٹھاون ڈالر لگایا گیا ہے۔ (\$1,52,24,658)

ان فسادات کے بعد حکومت بحرین نے شیعہ افراد اور ان کے لیڈر علی سلمان، عبداللہ میر الجمری،

آیہ اللہ محمد سند اور دیگر خطباء اور مشائخ کو بہت سی مراعات دیں اور انہیں خصوصی رعایتیں دیں تاکہ ملکی انتشار و

فساد کا خاتمہ کیا جاسکے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ خبیث اچھی تک اپنے خفیہ منصوبوں کی تکمیل اور اپنے

مجرمانہ اہداف کے حصول میں پوری طرح مستعد ہیں۔ حزب اللہ کا آخری گھناؤنا منصوبہ جو 2006ء میں پکڑا

گیا وہ یہ تھا کہ حکومت بحرین کو پتہ چلا کہ ایرانی حکومت حزب اللہ کے ذریعے سے بحرین کے مختلف علاقوں

میں زمینیں خرید کر شیعہ لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے تاکہ ان علاقوں میں شیعہ آبادی میں اضافہ کیا جاسکے۔ ایران

کی حمایتی تنظیموں اور جماعتوں میں بالواسطہ طریقے سے امدادی رقوم تقسیم کی جا رہی ہیں۔ بلکہ سیکورٹی اداروں

کی رپورٹ کے مطابق تہران کے قریب امام علی فوجی چھاونی میں حزب اللہ بحرین کے اراکین کو تربیت دینے

کے لئے معسکر دوبارہ بنادیا گیا ہے اور اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے۔

حزب اللہ لبنانی کے کئی لیڈروں نے اس معسکر میں ملاقاتیں کی ہیں۔ ان میں ایک ملاقات مکرم

برکات اور بحرینی شیعہ جنگجوؤں کی ہوئی جو پہلے دمشق اور پھر بیروت میں منعقد ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں بحرین

میں شیعہ اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لئے شیعہ تحریک کو فعال بنانے اور سیاسی عمل میں تنظیم سازی پر غور و فکر کیا

گیا۔ اس ملاقات میں حسن نصر اللہ نے شیعہ افرادی قوت مہیا کرنے کا عہد کیا تاکہ ایرانی شیعہ پلان کو مکمل کیا جا

سکے۔ اسی طرح اس میٹنگ میں اقتصادی اثر و رسوخ میں اضافے کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ تاکہ شیعہ

تاجروں کو بھی سرگرم کیا جاسکے۔ یہ کام شیعہ تاجروں کو بھاری امدادی رقوم دے کر اور ان کے ساتھ کاروباری

شرکت کر کے کیا جائے گا۔ تاکہ بحرین کی اقتصادیات پر شیعہ کنٹرول ہو سکے اور بعد میں بعض بنیادی

ضروریات زندگی کو مارکیٹ سے غائب کر کے مصنوعی قلت اور بحران پیدا کر کے حکومت کو اپنے مزید مطالبات

ماننے پر مجبور کیا جاسکے۔

اس کے ساتھ ساتھ ایرانی انٹیلی جنس ادارے بحرینی شیعہ کو انتخابات میں بھرپور شرکت کے لئے

ہر قسم کی امداد فراہم کریں گے تاکہ قومی اسمبلی میں شیعہ ممبران کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاسکے۔ تاکہ وہ

ممبران شیعہ مفادات کے مطابق قانون سازی کر سکیں اور ایسے قانون اسمبلی سے پاس کرا سکیں جو ظلمی اور عربی

ممالک میں ایرانی مفادات کی حمایت اور تحفظ کا کام دے سکیں۔ [دیکھئے: الأحزاب و الحركات و الجماعات

الإسلامیہ: 581/2]

حجازی حزب اللہ

1979ء میں ایران میں فیمنی انقلاب کے قیام کے شروع ہونے اور اس کے غلبے کے فوراً بعد

ایرانی حکمرانوں نے اپنے سعودی ایجنٹوں کو سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کا حکم دے دیا۔ ایرانی حکومت

کی اس تحریض و تحریک پر 1400ھ میں ضلع قطیف میں شیعہ آبادی نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں کچھ

اس طرح کے نعرے لگائے گئے: ”ہم حسینی مذہب کے پیروکار ہیں: ”ہمارا قائد حسینی ہے“۔ ”سعودی حکومت کو

قلم کر کے دم لیں گے۔“

”شاہ فہد اور خالد کی حکومت کا تختہ الٹ کر رہیں گے۔“ وغیرہ وغیرہ!! پھر جیسے ہی سعودی شیعہ قیادت اور ایرانی حکومت میں تعلقات مضبوط ہوئے اور فتنی انقلاب کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے تو سعودی شیعہ کو حسن الصفا کی قیادت میں ایک نئی تنظیم بنانے کا حکم دیا گیا۔ لہذا ”منظمہ الثورة الاسلامیہ لتحرير الجزيرة العربیہ“ کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی گئی جس کے لیڈر اور منتظم حسن الصفا تھے۔ اس تنظیم کا معنی ہے ”جزیرہ عرب کی آزادی کے لئے اسلامی انقلابی تنظیم“۔ [دیکھئے: الاحزاب و الحركات و الجماعات الإسلامیہ۔ 581/2]

بعد میں اس کا نام ”منظمة الثورة الإسلامیة فی الجزيرة العربیة“ (جزیرہ عرب میں اسلامی انقلابی تنظیم) رکھا گیا۔ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ ایران میں برپا ہونے والے شیعہ انقلاب کی حمایت اور اسے عالم اسلام میں غالب کرنے کی کوششیں کرنا۔

۲۔ جزیرہ عرب یعنی سعودی عرب کی سنی اسلامی حکومت کو ختم کرنا اور ایرانی حکومت کی تابع شیعہ حکومت قائم کرنا۔

کیونکہ اس تنظیم کے نزدیک سعودی حکومت اور دیگر خلیجی حکومتیں کافر طاغوتی حکومتیں ہیں۔ جبکہ تنظیم خود کو ایرانی انقلاب کا ایک حصہ شمار کرتی ہے۔ اسی لئے شیخ حسن الصفا جو کہ اس تنظیم کا منتظم اور مرشد ہے: کہتا ہے کہ ”ہمیں ایران سے بھاری امداد اور حمایت کی توقع ہے جو انقلابی اہداف کو پورا کرنے کے قابل ہو۔“ [الاحزاب و الحركات و الجماعات الإسلامیہ، 588/2]

تنظیم کا خیال ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کے لئے ہی تشکیل دی گئی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے تین شروط کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ قائدین کا ہجرت کر جانا اور ملک سے باہر رہ کر مطلوبہ کردار ادا کرنا تاکہ وہ مکمل آزادی سے اپنا کام سرانجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی تنظیموں اور موسسات کا ہونا ضروری ہے جو تحریک انقلاب کی فکری، اخلاقی اور نظریاتی حمایت کرے۔

۲۔ اسلحے کے بغیر شیعہ انقلاب برپا کرنا ناممکن ہے۔

۳۔ تحریک انقلاب کی معاون تنظیموں کی تشکیل تاکہ وہ اہداف کے حصول میں تحریک کی مددگار بن سکیں۔

اس تنظیم کا ہیڈ آفس ایران میں تھا۔ پھر کچھ عرصہ دمشق میں قائم رہا اور آخر میں لندن میں قائم کیا گیا۔ تنظیم اپنا مشہور رسالہ ”اسلامی انقلاب“ بھی شائع کرتی تھی۔ اور یہ رسالہ 80 کی دہائی میں شائع ہوتا رہا۔ لیکن جب تنظیم کو احساس ہوا کہ ان کی تنظیم اور میگزین کا نام ان کے مفادات کے خلاف اثر دکھا رہا ہے اور بعض عوامی حلقوں میں اسے پذیرائی نہیں مل رہی تو انہوں نے 1990ء کے اواخر اور 1991ء کے شروع میں تنظیم کا نام تبدیل کر دیا اور نیا نام ”منظمة الثورة الإسلامیة فی الجزيرة العربیة“ (جزیرہ عرب میں اسلامی انقلابی تنظیم) سے بدل کر ”الحركة الاصلاحیة الشیعة فی الجزيرة العربیة“ (جزیرہ عرب میں شیعہ اصلاحی تحریک) رکھ دیا۔

اسی طرح میگزین کا نام ”اسلامی انقلاب“ کی بجائے ”میگزین جزیرہ عرب“ رکھ دیا گیا۔ (مجله الجزيرة العربیة)۔

اس کے ساتھ ساتھ تنظیم نے ”دارالصفاء“ کے نام سے پبلشنگ ادارہ بھی بنایا جو سعودی حکومت اور سعودی عوام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پر مشتمل کتابیں نشر کرتا۔ یہ ادارہ تنظیم کی خصوصی امداد پر ایسی رپورٹیں اور سروے شائع کرتا جو خصوصی طور پر مغربی یہودی تنظیموں کو ارسال کی جاتیں کیونکہ تنظیم کے مغربی پارٹینرشپ کے ساتھ گہرے تعلقات اور روابط تھے۔

اس طرح اس ”مجله الجزيرة العربیة“ نے جنوری 1991ء سے 1993ء کے نصف تک تقریباً تیس شمارے نکالے۔ اس میگزین کو بھاری مغربی امداد ملتی تھی یہ غیر ملکی مغربی تنظیمیں بھی سعودی عرب کے اسلامی نظام حکومت کے ساتھ عداوت کی بنا پر اس میگزین کی بھرپور سپورٹ کرتی رہیں تاکہ سعودی عرب میں امن و امان کو درہم برہم کر کے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی کی فضا کو ہوا دی جاسکے۔ اس میگزین کا ایڈیٹر حمزہ الحسن تھا اور ایڈیٹر عبداللہ میر موسیٰ تھا۔ چونکہ اس تنظیم نے اپنے اہداف کے حصول کے لئے متعدد تنظیمیں اور جماعتیں تشکیل دی تھیں اس لئے انہوں نے اپنے مطالبات منظور کرانے کے لئے ”حقوق انسانی“

کی تنظیم بھی بنا ڈالی۔ مگر اس نے تنظیم سے دور رہنے اور امر کی نظام کے قریب تر رہنے کو ترجیح دی۔ کیونکہ بے شمار امر کی اور یہودی تنظیمیں پہلے ہی تنظیم کے ساتھ منسلک تھیں۔ لہذا انہوں نے ”الجنة الدولة لحقوق الانسان في الخليج و الجزيرة العربية“ (خليج اور جزیرہ عرب میں انسانی حقوق کی انٹرنیشنل تنظیم) کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم نے انگریزی میں ایک میگزین Arabia Monitor بھی شائع کیا۔ یہ میگزین مبالغہ آرائی اور جھوٹ پر مبنی تفصیلی رپورٹیں اور مضامین شائع کرتا اور انقلابی تنظیم کے افکار و نظریات کی ترجمانی کرتا تھا اس تنظیم کا دانشور جعفر الشایب تھا۔ لندن میں یومسین جبکہ صادق الجبران اداری کاموں میں اس کا معاون تھا۔ جبکہ توفیق السیف اس تنظیم کا اہم ترین رکن اور حرکت اصلاحیہ الشیعہ کا جنرل سیکرٹری تھا۔ جزیرہ عرب میں شیعہ کی اصلاحی تحریک (منظمة الشورى الاسلاميه في الجزيرة العربية) کے مشہور ترین سابق راہنما یہ ہیں:

۱۔ حسن الصفار جو اس تنظیم کا منتظم، مرشد اور موسس تھا۔

۲۔ توفیق السیف، جنرل سیکرٹری۔

۳۔ حمزہ الحسن ”الجزیرہ العربیہ“ میگزین کا چیف ایڈیٹر۔

۴۔ مرزا الخولیدی: دارالصفاء پبلشنگ ادارے کا مینیجر

ان کے علاوہ دیگر راہنما بھی اس تحریک سے وابستہ رہے ہیں جیسے عادل سلمان حبیب ابراہیم، فواد ابراہیم، محمد الحسین، زکی المسلما، عیسیٰ المرعل جعفر الشایب، صادق الجبران اور فوزی السیف وغیرہ۔

1993ء 1994ء میں سعودی حکومت اور شیعہ تحریک کے درمیان ایک صلح نامہ طے پایا۔ جس کی رُو سے شیعہ تنظیم بیرون ملک قائم اپنے تمام دفاتر اور ملکی سطح کے میگزین و رسائل بند کر دے گی اور بیرون ملک سیاسی سرگرمیاں ختم کر دے گی۔ یہودی اور مغربی تنظیموں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو ترک کر دے گی۔ اور حکومتی اداروں میں خفیہ کارروائیوں اور معاشری تخریب کاری سے رُک جائے گی۔

ایران کے خمینی انقلاب کی حقیقت حال کے کھل جانے کے بعد جب لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ ایک خالص شیعہ بغاوت تھی جو علاقے میں شیعہ کی سیاسی چودہ راہٹ کے قیام کی کوششیں کر رہی تھی۔ اور ان لوگوں نے اپنے عقیدے تفتیہ کے مطابق دینی اور سیاسی میدان میں لوگوں کو دھوکا دیا ہے۔ تو شیعہ کے کچھ لیڈر واپس

سعودی عرب آ گئے تاکہ وہ اندرون ملک مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لئے اپنا اپنا کردار نئے سرے سے ادا کر سکیں۔ جبکہ کچھ لیڈر بیرون ملک ہی رک گئے تاکہ اپنے بھائی بندوں کی شروع کی ہوئی تحریک کو اس کے حتمی اہتمام تک پہنچا سکیں اور مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کر سکیں۔ [ان لیڈروں میں سے کچھ بھی ہیں۔ جنہوں نے صلح نامے پر دھوکا کھینچا تھا۔ جبکہ دیگر ایسے لیڈر بھی تھے جو اس صلح نامے میں شریک نہیں ہوئے تاکہ اپنا پلان مکمل کر سکیں اور بیرون ملک رہ کر مغربی اور یہودی تنظیموں سے فنڈ بٹرتے رہیں۔ ان بیرون ملک رہائش پذیر لیڈروں میں سے ایک علی آل احمد ہے جو کہ سعودی حکومت کے اسلامی نظام کے دشمن ہر گروہ اور تنظیم کے ساتھ قریبی تعلقات استوار رکھتا ہے]

یہ لوگ ابھی تک اپنے خفیہ منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ حالانکہ صلح نامے میں ہر قسم کے نسلی تعصب پر مبنی سیاسی تحریک اور شیعہ اثر و رسوخ کے نفاذ پر مبنی ہر سرگرمی کو بند کرنے پر فریقین کا اتفاق ہو چکا ہے۔

اس گروہ کی آخری کارروائی کی وضاحت حسن الصفار نے ضلع قطیف کے ایک شیعہ جشن میں اکتوبر 2006ء میں کی کہ اگر حکومت سعودیہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو شیعہ ملک میں دھماکے شروع کر دیں گے جیسا کہ 1400ھ میں شیعہ بم دھماکے کر چکے ہیں اور 1407ھ میں مکہ مکرمہ میں فسادات اور قتل و غارت کا بازار گرم کر چکے ہیں۔

حجازی حزب اللہ کا عسکری ونگ

اسی کی دہائی کے نصف ثانی میں تقریباً 1987ء میں جزیرہ عرب کی اسلامی انقلابی تنظیم نے اپنا عسکری ونگ قائم کیا۔ اور اسے ”حزب اللہ الحجاز“ کا مشفقہ نام دیا گیا۔ [شیعہ نے اس عسکری ونگ کو حجازی اس لئے قرار دیا کیونکہ شیعہ سعودی حکومت کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور شیعہ کا امام مفتی سعودی عرب کو حجاز ہی کہتا تھا۔ حالانکہ سعودی عرب کو حجاز کا نام دینا کچھ درست نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ حجازی لوگ سنی مسلمان ہیں اور شیعہ سے براءت اور لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں]۔ یہ عسکری ونگ سعودی عرب میں دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ ایام حج میں فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لئے اس کو ایرانی انقلابی گارڈز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔

اس تنظیم کی تشکیل ایرانی خفیہ ایجنسی کے افسر احمد شریفی کے زیر انتظام ایرانی انقلابی طرز پر کی گئی۔ اس تنظیم میں بعض سعودی شیعہ طالب علموں کو بھی بھرتی کیا گیا جو ایران کے شہر ”قم“ میں زیر تعلیم تھے۔ لیکن بعد میں حزب اللہ حجازی اور شیعہ تنظیم ”منظمة الشورى الاسلاميه في جزيرة العرب“ کے افراد میں

باہمی اختلاف ہو گئے۔ ہر کوئی سیاسی میدان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے اور اپنی ہدایات پر عمل پیرا ہونے پر زور دیتا تھا۔ لہذا ایرانی منتظمین کی قیادت نے احمد شریفی کے زیر نگرانی دونوں تنظیموں کی الگ الگ ذمہ داریاں مقرر کر دیں۔ اور عسکری کارروائیوں کی ذمہ داری حزب اللہ الحجازی کے سپرد کی گئی۔

1407ھ کے حج کے دنوں میں حزب اللہ الحجازی کے شیعہ کارکنان نے ایرانی انقلابی گارڈز کے تعاون سے ایک بہت بڑا جلوس نکالا جس کا مقصد حجاج کرام کو قتل کرنا اور عوامی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا اور مسجد حرام اور مقدس مقامات میں فتنہ و فساد برپا کرنا تھا۔ [ان جرائم میں ایرانی انقلابی گارڈز کے ملوث ہونے کا ثبوت دیکھئے کتاب: "الحرس الثوری الایرانی"، مؤلف: کیفیہ کاثرمان، صفحہ 195۔ جبکہ سعودی شیعہ کی کارگزاری کی وضاحت جناب المغربی نے اپنی کتاب "آثار النبوة" کے صفحہ 11 پر کی ہے۔]

اسی طرح یونیورسٹی آف عربک کنٹریز نے بھی مکہ مکرمہ میں ایرانی سازشوں اور 1407ھ کے حج کے موقع پر ان کے فسادات کی تصریح کی ہے۔ یونیورسٹی نے اپنی رپورٹ میں دیگر خلیجی ممالک میں بھی ایرانی خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ دیکھئے: یونیورسٹی کی رپورٹ: ق: 4695۔ د: غ۔ ع۔ 1987/8/25۔]

9 صفر 1417ھ بمطابق 25 جون 1996ء کو حزب اللہ کے کارکنان نے خمیر شہر کے رہائشی پلازے میں ایک گاڑی کی تیل والی ٹینکی میں بم رکھ کر شدید دھماکہ کیا۔ اس گاڑی کو پلازے کے پاس روک کر دہشت گرد خود کاروں میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ ان کے فرار کے ٹھیک چار منٹ بعد پٹرول والی ٹینکی زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ جس سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔

اس مجرمانہ کارروائی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم ترین کردار درج ذیل غنڈوں نے ادا کیا:

۱۔ حاتم الصالح، ۲۔ مصطفیٰ القصاب، ۳۔ جعفر الشویحات، ۴۔ ابراہیم یعقوب، ۵۔ علی الحوری، ۷۔ احمد المغسل (یہی شخص عسکری ونگ کا منتظم ہے۔ اور خمیر شہر کے بم دھماکے کا مرکزی قائد ہے)۔ ۸۔ حسین آل مغیض، ۹۔ عبدالہ الجراش، ۱۰۔ شیخ سعید البحار، ۱۱۔ شیخ عبدالجلیل السمین۔

خمیر شہر کے رہائشی پلازے میں بم دھماکے کے بعد ہانی الصالح کو کینڈا سے امریکی تعاون سے گرفتار کر لیا گیا۔ جبکہ عبدالکریم الناصر، احمد المغسل اور ابراہیم یعقوب اور علی الحوری ایران فرار ہو گئے۔ جعفر الشویحات کو شام سے فرار کرادیا گیا جبکہ اس کی گرفتاری کے دوسرے ہی دن اس کی خودکشی کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا

ہے کہ ایرانی حکومت کے حکم پر اسے شام کی کسی جیل میں شامی انتہیلی جنس نے قتل کر دیا تھا تاکہ خمیر شہر کے بم دھماکے کا اصلی مجرم ختم ہو جائے اور اس سے حاصل ہونے والی اہم معلومات کا ذریعہ باقی نہ رہے۔

اس جماعت کے اہم ترین رکن عبدالکریم الناصر حزب اللہ کے اہم لیڈر شمار ہوتے ہیں۔ جبکہ دیگر افراد میں فاضل العلوی، علی المرہون، مصطفیٰ المعلم، صالح رمضان شامل ہیں۔ جنہیں بم دھماکے سے قبل ہی گرفتار کر لیا گیا جبکہ وہ اس دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کی گرفتاری کے باعث احمد المغسل نے دیگر لوگوں کو بم دھماکے کی ذمہ داری سونپی۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔

ان کے اہم ترین راہنما اور قائدین میں الشیخ جعفر علی المبارک، عبدالکریم کاظم الجلیل اور ہاشم الشخص شامل ہیں۔ یہ تینوں افراد اس تنظیم کے منتظمین اور امدادی سپورٹر شمار ہوتے ہیں۔ [یہ تینوں اشخاص "جہاد الاسلامی" کے لقب سے ملقب ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اتحاد کے درجے کو پہنچ چکے ہیں اور یہ مقام شیعہ کے ہاں بہت بلند و اعلیٰ رتبہ ہے۔]

ان کے علاوہ بہت ساری جماعتیں اور گروہ ہیں جن کے ملنے سے تنظیم کی مکمل ہیئت بنتی ہے۔

اس تنظیم کے افراد ایران اور لبنان میں عسکری اور تخریبی تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ اسلامی حکومتیں اللہ اور ایرانی انقلاب کے زیر اثر نظام حکومت ان ملکوں میں قائم کرنے کے خفیہ منصوبوں پر عمل کر سکیں۔ [درج بالا معلومات اور خبریں "جریڈۃ الریاض" کے 4 ذی القعدہ 1426ھ بمطابق 6 دسمبر 2005ء کے شمارے، کتاب "الأحزاب و الحركات و الجماعات الإسلامية: 581/2-601 اور انٹرنیٹ سے حاصل کر گئی ہیں۔ جبکہ دیگر مصادر سے استفادہ بھی کیا گیا ہے۔]

اگرچہ اس عسکری ونگ کے متعدد کمانڈر گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ قائد اس تنظیم سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، تاہم اس تنظیم نے سیاسی اور ابلاغی کوششیں بیرون ملک سے جاری رکھی ہوئی ہیں اور یہ تنظیم ابھی تک اپنے شیعہ عوام کو اشتعال دلانے اور حکومتی دشمنی اور عداوت پر ابھارنے والے رسائل اور میگزین شائع کر رہی ہے۔ حکومت سعودیہ کے خلاف علم بغاوت کا حال بلند کئے ہوئے ہے اور سعودی حکومت سے آزادی کی کوششوں میں ابھی تک سرگرم ہے۔ [دیکھئے: حزب اللہ الحجاز کا بیان، مؤرخہ 2005/3/9ء] اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیٹ ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے جہاں پر اپنی باغیانہ اور تخریبی نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں۔

کویت حزب الله

کویت حزب الله اسی کی دہائی میں حزب الله لبنانی کی تاسیس کے بعد قائم کی گئی۔ اس تنظیم نے متحدہ خیالی تنظیموں اور جعلی ناموں کے ساتھ کام کیا۔ مثلاً "طلاح تفسیر النظام للجمهورية الكويتية" "صوت الشعب الكويتي الحر"، "منظمة الجهاد الاسلامي" اور "قوات المنظمة الثورية في الكويت"۔ حالانکہ ان تمام تنظیموں کی اصل حزب الله الكويتی ہی ہے۔ [دیکھئے: الحركة الشيعية في الكويت، مؤلف: ڈاکٹر فلاح المدیریس، صفحہ 31-30]۔

حزب الله کی اس برانچ کی بنیاد کویتی شیعہ کے ان طلباء نے رکھی جو ایرانی شہر "قم" کے حوزہ دینیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ [علی ممالک میں حزب الله کے مؤسسين اور کارکنان کی بھرتی "قم" شہر ہی سے ہوتی ہے جبکہ یہ لوگ وہاں کے حوزہ علیہ میں شیعہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں] اس تنظیم کے اکثر ارکان کے ایرانی انقلابی گارڈز کے ساتھ گہرے روابط ہیں کیونکہ انہوں نے تخریبی تربیت انہیں سے حاصل کی تھی۔ [دیکھئے: الحركة الشيعية في الكويت، مؤلف: ڈاکٹر فلاح المدیریس، صفحہ 31]۔

انہی لوگوں نے "النصر" میگزین بھی نکالا جو حزب الله الكويتی کے نظریات و افکار پر چار کرتا تھا۔ یہ رسالہ طہران سے "المركز الكويتي للاعلام الاسلامي" (کویت مرکز برائے اسلامی نشریات) کے تحت شائع ہوتا تھا۔

یہ رسالہ کویتی شیعہ کو اپنے مقاصد و اہداف کے لئے استعمال کرتا اور ان کی ذہن سازی کرتا تاکہ کویتی شیعہ حکومت کویت کا تختہ الٹ کر ایرانی شیعہ حکومت کے تابع حکومت قائم کریں۔

یہ تنظیم کویت میں فتنہ و فساد اور عوامی اضطراب و بے چینی پیدا کرتی، بم دھماکے انگو اور قتل و غارت کی خفیہ کارروائیاں کرتی تاکہ کویت میں اپنا تسلط قائم کر کے ایران کی ہم مذہب حکومت قائم کر سکیں۔

کویت حزب الله ایرانی شیعہ تحریک کا ایک اہم جزو شمار ہوتی ہے جس کی قیادت آیہ اللہ العظمیٰ خامنہ ای کرتا ہے اور اس کا نظریہ ہے کہ آل صباح کو کویت میں حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے۔ [دیکھئے: مجلة السياسة الدولية، جسے لایبراہم اخبار نے جنوری 1996ء کو شائع کیا۔ شمارہ نمبر 123]۔

اس جماعت نے کویت میں بہت سی تخریبی اور دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں۔ جن میں سے چند ایک کا تذکرہ درج ذیل ہے:

۱۔ شیعہ تنظیم "حزب الدعوة" [حزب الدعوة] کا اس وقت امیر "محمد باقر حکیم" تھا۔ جسے 2003ء کو عراق میں قتل کر دیا گیا۔ اس بد بخت نے ان دنوں امیر کویت کو قتل کرنے کے جواز کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ اور اعلان کیا تھا کہ امیر کویت کو قتل کر کے مرنے والا شہید کا درجہ پائے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ نیز اس قتل کی کارروائی میں تعاون کرنے والے بھی جنتی ہوں گے۔ 25 مئی 1985ء کو قتل و غارت کی ایک گھناؤنی کارروائی کی جبکہ امیر کویت کا قافلہ دسمان محل سے روانہ ہو کر السیف محل کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے کی بلاروک ٹوک ٹریفک کے لئے تمام ٹریفک اشارے بند کر دیئے گئے۔ اور صرف سڑک کے دائیں بائیں مڑنے والے راستے کھلے رکھے گئے تاکہ جو لوگ قافلے سے الگ ہو کر جانا چاہیں وہ جا سکیں۔ اسی لمحے ایک کار اسی سائڈ والی سڑک سے اچانک قافلے کے سامنے آ گئی۔ جسے سیکورٹی افسر نے روکنے کی کوشش کی تو وہ زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ جس سے سیکورٹی افسر کی گاڑی، افسر محمد الغزری اور ہادی الشمری سمیت جل کر راکھ ہو گئی۔ جبکہ سیکورٹی افسران کی ایک اور گاڑی دھماکے کی شدت کی وجہ سے امیر کویت کی گاڑی سے جا ٹکرائی اور بالآخر الرت بازیاں کھاتی ہوئی دائیں فٹ پاتھ کے ساتھ جا گئی۔ اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ بھی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔

۲۔ 12 جولائی 1985ء کو اس تنظیم نے دو قبوہ خانوں میں بم دھماکے کئے جو کہ کویت شہر میں واقع تھے۔ جس سے بہت سارے شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔

۳۔ 29 اپریل 1986ء کو کویت کے سیکورٹی اداروں نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایسے بارہ تخریب کار گرفتار کئے ہیں جو کویت ایئر لائن کا ایک 747 بونگ طیارہ اغوا کر کے مشرقی ایشیا کے کسی ملک لے جانے کی کوششیں کر رہے تھے۔

۴۔ 15 اپریل 1988ء کو علی اکبر محتشمی [علی اکبر محتشمی کے اس حکم کی وضاحت کویت کے روزنامے "القدس" نے ان دنوں اپنے شمارے میں کی تھی۔ دیکھئے شمارہ نمبر: 5717] نے حزب الله کے لیڈروں کو حکم دیا کہ وہ کویت ایئر لائنیں کا "الجابزینہ" جہاز اغوا کر کے ایران کے شہر "مشهد" پہنچا دیں۔ یہ جہاز بنگاک سے آرہا تھا۔ لہذا اسے عماد (ایران کے ڈاکٹر مسعود اسدالہی نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں تحقیق سے ثابت

کیا ہے کہ اس جہاز کو اغوا کرنے والے لبنانی شیعہ تھے اور ان کا تعلق حزب اللہ سے تھا۔ دیکھئے کتاب ”الإسلاميون في مجتمع تعددي“ حزب الله في لبنان نموذجا. صفحہ 254-252) مغنیہ لبنانی کی قیادت میں اغوا کر کے ایران پہنچا دیا گیا۔ یہ شخص آجکل لبنانی حزب اللہ کا سپریم کمانڈر ہے۔ [اخبار ”شرق الأوسط“ 17 رجب 1427ھ بمطابق 11 اگست 2006ء بروز جمعہ المبارک کے شمارے میں لکھتا ہے کہ 2005 میں عماد مغنیہ کو جنوبی عراق کے مسلح شیعہ گروہوں کو متحد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس طرح جنوبی عراق میں اٹلی جنس رپورٹیں تیار کرنے کی ذمہ داری بھی اسے ہی دے دی گئی۔ اسی سال 2005 میں عماد شام کے راستے لبنان میں داخل ہوا جبکہ اس کے ساتھ کچھ ایرانی تحریک کار بھی تھے۔ اس بار یہ سید محمدی ہاشمی کے نام سے ایرانی سفارتی پاسپورٹ پر لبنان داخل ہوا۔]

پھر 2006ء کے اوائل میں اسے دوبارہ عراق کے شہر بصرہ میں دیکھا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ”السجیش المہدی“ کے جنگجوؤں کو ایران تک بحفاظت پہنچانے کا تنظیم بھی ہے۔ تاکہ وہ دہشت گردی کی تربیت حاصل کر سکیں۔ گزشتہ سال اپریل میں عماد مغنیہ دوبارہ لبنان چلا گیا تاکہ حزب اللہ کا اٹلی جنس نیٹ ورک قائم کر سکے۔ ایرانی حکومت اسے ”الشعلب“ (لومڑی) کا لقب دیتی ہے جبکہ حزب اللہ لبنانی کا قائد حسن نصر اللہ اسے ”الحاج“ کے لقب سے یاد کرتا ہے۔]

پھر اس جہاز نے بیروت میں اترنے کی کوشش کی۔ لیکن ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ لہذا وہ جہاز کو قبرص کے لارنکا ایئرپورٹ پر لے گئے۔ وہاں پر اغواء کاروں نے دو کویتی شہریوں عبداللہ الخالدی اور خالد ایوب کو ان کے سروں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور انہیں جہاز سے باہر پھینک دیا۔ بالآخر وہ جہاز کو الجزائر لے گئے۔ جہاں پر اغواء کاروں کو رہا کر دیا گیا۔ (کویت کے ”السحابریہ“ جہاز کے اغواء کی تفصیل کے لئے دیکھئے ”الکویت میگزین“ شمارہ نمبر 70، جولائی 1988ء۔ نیز مجلۃ المستقبل، شمارہ نمبر 582، اپریل 1988ء)۔

5۔ 1983ء میں حزب اللہ نے اپنی ایک ذیلی تنظیم کے ذریعے سے جسے ”الجمہاد الاسلامی“ کہا جاتا ہے، ایک ہی دن میں مرکزی بجلی گھر، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ، افریقی اور فرانسیسی سفارت خانوں، پٹرول ریفائزری اور ایک رہائشی کمپلیکس میں بم دھماکے کئے، ان دھماکوں میں کم از کم سات افراد ہلاک اور 62 زخمی ہوئے۔ یہ تمام لوگ پٹرول ریفائزری کے انجینیر اور رہائشی کمپلیکس کے بے گناہ شہری تھے۔ ان تحریک کار کی وارداتوں کے بعد حزب اللہ نے حکومت کویت کو دھمکی دے کر اپنے 19 مجرم رہا کرنے کا مطالبہ کیا جو مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیلوں میں بند تھے۔ [کویت میں

حزب اللہ کی دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی تفصیل دیکھئے کتاب: حزب الله من السلم الايديولوجي إلى الواقعية السياسية، صفحہ 58-60۔]

6۔ اسی طرح حزب اللہ نے 1983ء کی پہلی ششماہی میں کویت کا ایک جہاز اغواء کر کے ایران کے مشہد ایئرپورٹ پر پہنچا دیا جس میں 500 کے قریب مسافر سوار تھے۔

حزب اللہ الکویت کے خلیجی ممالک میں واقع دیگر برانچوں کے ساتھ بھی گہرے روابط قائم تھے۔ لہذا جب کویتی حزب اللہ نے عراقی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ بارود جمع کر لیا جو وہ کویت عراق جنگ میں چھوڑ گئے تھے۔ تو کویتی حزب اللہ نے یہ بھاری اسلحہ بارود بحرینی حزب اللہ کو سہولت کر کے پہنچا دیا تاکہ وہ اپنی خونریز وارداتوں میں اسے استعمال کر سکے۔ جسے اس نے 1996ء کے فسادات میں استعمال کیا۔

کویت کی خبر رساں ایجنسی نے یہ اعلان کیا تھا کہ کویتی حزب اللہ عراقی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ بارود خرید کر جمع کر رہی ہے اور اسے بحرینی حزب اللہ کو سہولت کر رہی ہے۔ [دیکھئے 10 جون 1996ء کا شمارہ۔]

نوعے کی دھاتی میں کویتی حزب اللہ نے ایک نیا روپ دھارا کر ملکی سیاست میں باضابطہ شریک ہو گئی۔ تاکہ سیاست کے زور پر اپنے مطالبات اور مقاصد حاصل کر سکے اس طرح حزب اللہ نے سیاسی تہذیب سے کام لیتے ہوئے نہایت مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے ملکی سطح پر اسلامی وطنی اتحاد کی فضا تیار کرنا شروع کی جو ان کی سیاست کے موافق اور ان کے اہداف کے حصول میں معاون ہو۔

اس تنظیم کے اہم ترین لیڈر اور بانیان میں محمد باقر المہدی، عباس بن نجی، عدنان عبدالصمد، ڈاکٹر ناصر صرغہ اور ڈاکٹر عبدالحسن جمال شامل ہیں۔

ایرانی شیعہ حکومت نے اس برانچ میں دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ [دیکھئے: مجلۃ الوطن العربی، شمارہ نمبر 1545، 11 اکتوبر 2006ء]۔ سیکورٹی اداروں کی خفیہ رپورٹیں اس بات کا انکشاف کر رہی ہیں کہ جنوبی عراق میں ایرانی غلبہ اس حد تک پہنچتا ہو چکا ہے کہ یہ ایرانی انقلابی گارڈز اور خفیہ ایجنسیوں کی پناہ گاہ بن چکا ہے جسے حزب اللہ اور ایرانی شیعہ کویت میں دہشت گردی اور فتنہ فساد برپا کرنے کے لئے بیس کمپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔

ان رپورٹوں نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ایرانی اٹلی جنس کویت میں اسلحہ کی سہولت کے لئے خفیہ

روٹ تیار کر رہی ہے۔ اسی طرح کویتی شیعہ کی کچھ جماعتوں کے ایرانی حمایت اور کویت حکومت کے خلاف ابھارنے والے اعمال بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کویت اور تمام اسلامی ممالک کو شیعہ شر اور دہشت گردی سے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

یمنی حزب اللہ

یمن میں حزب اللہ کی علاقائی براچ کا نام یمنی حزب اللہ رکھا گیا۔ [دیکھئے: الزہراء، ص 130]۔ لیکن حزب اللہ لبنانی کے گھناؤنے جرائم، قتل و غارت اور دہشت گردی کی وارداتوں کی وجہ سے یمن کے مسلمان معاشرے میں حزب اللہ کو پندیرائی نمل سکی جو کہ شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد و افکار کی پیروکار تھی۔ لہذا اس براچ کا نام تبدیل کر کے ”الشباب المؤمن“ رکھا گیا تاکہ یہ عوام میں مقبول ہو سکے۔ یہ تنظیم نوے کی دہائی میں قائم کی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی تفصیل دیکھئے: کتاب: ”الحرب فی معدة“، ص 26، الزہراء، ص 129]۔ اس تنظیم میں شیعہ کے زیدی فرقے کے افراد بھی بھرتی کئے گئے جو کہ اپنے زیدی عقائد ترک کر کے اثنا عشریہ عقائد کو قبول کر چکے تھے یا وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے دھوکہ دہی سے اس نئی تنظیم میں شامل ہو گئے تاکہ ایرانی شیعہ کے اثنا عشری عقائد کو یمن میں فروغ دیا جاسکے۔

اس تنظیم میں شامل ہونے والوں میں سرفہرست حسین [فیض 10 ستمبر 2004ء کو چھیالیس سال کی عمر میں قتل ہو گیا]۔ بدر الدین الحوٹی اور اس کا والد بدر الدین الحوٹی ہے۔ [بدر الدین ابھی تک زندہ ہے اور اس کی عمر 85 سال ہے۔] [قطیف کا رہائشی حسن الصفا شیعہ اس شخص کا شاگرد ہے۔ حسن الصفا نے بدر الدین شیعہ مذہب کی سند اور اجازت لی ہوئی ہے۔ اس بات کی تصدیق حسن الصفا کے انٹرنیٹ پر موجود تعارف سے بھی ہوتی ہے۔ اب اس جماعت کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد استاد شاگرد کے اس رشتے کو ویب سائٹ سے حذف کر دیا گیا ہے۔] یہ اصل میں جارودیہ [جارودیہ، شیعہ کے زیدی فرقے کا ایک ذیلی فرقہ ہے جو شیعہ کے اثنا عشری فرقے کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے بلکہ شیعہ کا شیخ المفید صرف فرقہ امامیہ اثنا عشریہ اور جارودیہ ہی کو شیعہ شمار کرتا ہے۔] دیکھئے: اوائل المقالات، ص 39۔

(یہ وہ بد بخت فرقے ہیں جو حضرت ابوبکر الصدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کا

انکار کرتے ہیں اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت امامت کا اشارہ کیا تھا اور اسے عام لوگوں میں بیان کیا تھا لیکن امت اسلامیہ نے یہ حق حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو دے کر کفر و ارتداد کا ارتکاب کیا۔ یہ فرقے صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر سنت نبوی پر مشتمل کتب کا انکار کرتے ہیں جن میں صحابہ کرام کی روایات مروی ہیں۔ دیکھئے: التفاری کی کتاب، اصول مذهب الشیعہ اثنا عشریہ، 51/1۔ محمد عظیم کا مضمون ”الحوٹی و مستقبل الفتنہ المجهول“، جسے ”الرشد“ اخبار نے 25 اپریل 2005ء کو شائع کیا ہے۔) جارودیہ فرقے کے افراد تھے جو زیدیہ جارودیہ سے جعفریہ اثنا عشریہ میں بہت پہلے ہی شامل ہو گئے تھے اور اپنے عقائد کو مزید پختہ کرنے کے لئے یہ شخص ایرانیان گئے تاکہ وہاں کے شیعہ مذہب مکتب سے مزید تعلیم حاصل کر سکیں۔

کچھ لوگوں نے جو اس کی تبلیغ کے اثر سے اثنا عشریہ فرقے میں شامل ہوئے تھے وہ اس کے مذہب جارودیہ چھوڑ کر اثنا عشری مذہب کی تاریخ 1997ء بیان کرتے ہیں۔ [دیکھئے: الزہراء والحجر ”النصر الدینی فی الین“ مؤلفہ: عادل الاحمدی، ص 138]۔

اس کے بعد یمن کے زیدی علماء نے الحوٹی سے لاقلمی کا اعلان کر دیا اور اس کی تنظیم سے مکمل بے زاری کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک اعلان جاری کیا جسے ”زیدی علماء کا بیان“ کہا گیا۔ اس میں انہوں نے حوٹی کے دعویٰ کی شدید تردید کی اور اہل بیت اور زیدی فرقے کے بارے میں اس کے گمراہ کن عقائد کا زبردست رد کیا۔ [اس بیان کی تفصیل مذکورہ بالا کتاب میں صفحہ 253 تا 349 میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس الحوٹی کی ترغیب پر اثنا عشری فرقے میں داخل ہونے والوں میں قاضی احمد الشامی بھی شامل ہے جو ”حزب الحق“ تنظیم کا جنرل سیکرٹری ہے۔ اور حوٹی اس شخص کے زیر سایہ اپنا کام کر رہا ہے۔]

شیعہ کا عقیدہ ہے کہ مہدی منتظر کے خروج سے پہلے کئی تمہیدی انقلاب آئیں گے۔ ایرانی شیعہ محقق علی الکردانی [دیکھئے: علی الکردانی کی کتاب: عصر الظہور، ص 115 تا 120۔ اور دیکھئے: مجلس کی کتاب: ہمارا الانوار، 380/52] کے مطابق اس انقلاب کا لیڈر زید بن علی کی اولاد سے ہوگا۔ اور روایات شیعہ میں اس کا نام حسن یا حسین بتایا گیا ہے۔ وہ انقلابی لیڈر یمن سے نمودار ہوگا اور اس کا ظہور ”کرعہ“ نامی بستی سے ہوگا جو صعدہ کے قریب واقع ہے۔

علی الکورانی کے اس بیان میں الحوثی کے انقلاب کی حمایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی مدد کی ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی منتظر کے انقلاب کی تمہید ہے؟

حوثی جن نظریات و افکار کی تبلیغ کرتا ہے اور جنہیں وہ اپنے مقالات اور خطابات میں بیان کرتا ہے وہ امامت، وصیت اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر مشتمل ہیں۔ صحابہ کرامؓ سے دشمنی، خصوصاً خلفائے راشدینؓ سے شدید عداوت اس کا ایمان ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق اصل بگاڑا نہیں حضرات کی وجہ سے ہوا تھا۔

حوثی شرعی علوم سے کفارہ کشی کی دعوت بھی دیتا ہے کیونکہ ان علوم کی نشر و اشاعت علمائے اہل سنت و الجماعت نے کی ہے۔ [دیکھئے: کتاب "الحرب فی معدنہ"، مؤلف: الصنعانی صفحہ 16 و 17]

لہذا بدرالدین الحوثی اپنے عقیدے کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے: "میں صحابہ کے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ سب کافر ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی مخالفت کی تھی۔" [اس عقیدے کا اظہار حوثی ابو جعفر المبخوت کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا ہے جسے شیعی ویب سائٹ "المعصومین الاربعہ عشر" پر دیکھا جاسکتا ہے۔]

حوثی نے مزید جرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شخص کا مال حکومت سے وصول کر کے اس کے حوالے کرنا واجب ہے۔

حوثی کے یہ پراگندہ نظریات اثنا عشریہ شیعہ کے نجس عقائد کی صرف ایک جھلک ہے حوثی اثنا عشریہ مذہب میں کس قدر غرق ہو چکا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے کربلا کی مٹی منگوائی ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے تاکہ اپنی مکمل اتباع کا اظہار عوام کے سامنے کر سکے۔ [دیکھئے: الحرب فی الصعدہ، صفحہ 39، حوثی کے عقائد اور مقالات کی تفصیل کے لئے مذکورہ بالا کتاب کا صفحہ 65 سے صفحہ 133 کا مطالعہ کریں۔ نیز: "النساء البقیں فی کشف حقیقۃ حسین بدر الدین"، دیکھیں جو "مفکرۃ الاسلام" کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔]

پہلے پہل حوثی اور اس کے پیروں "حزب الحق" نامی تنظیم کے تحت کام کرتے تھے جو کہ زیدی شیعہ کی سیاسی تنظیم ہے لیکن بعد میں حوثی اس سے الگ ہو گیا اور اس نے "الشباب المؤمن" کے نام سے نئی تنظیم بنالی جو کہ کشلی یمن کے شہر صعدہ میں دہشت گردی، بغاوت اور دغا فساد کی کارروائیوں میں مشغول ہے بلکہ ایران

حوثی کو مالی، نظریاتی اور عسکری امداد فراہم کرتا ہے اور یہ ساری کوششیں یمن میں شیعہ انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لئے کی جارہی ہیں۔

اس سلسلے میں حوثی کچھ عرصہ لبنان میں بھی رہا تاکہ لبنانی حزب اللہ کے کردار اور کارروائی کو نزدیک سے دیکھ سکے اور پھر نوے کی دہائی میں ایران بھی گیا اور وہاں سے مزید ہدایات اور تربیت لے کر 1997ء کے وسط میں واپس یمن آ گیا۔ [دیکھئے: الزہر والحرر "التمرد الشیعہ فی الیمن"، مؤلف: عادل احمدی، صفحہ 134 و 135 اور کتاب "الحرب فی الصعدہ"، صفحہ 10 و 18]

صنعاء میں ایرانی سفارت خانے کے ذریعے سے حوثی کی تنظیم "الشباب المؤمن" کو جو امدادی گئی وہ ایک رپورٹ کے مطابق 42 ملین یمنی ریال ہیں۔ یہ خطیر رقم حوثی کی تنظیم اور اس کے تابع دیگر شیعی مراکز کو دی گئی جو الصعدہ شہر میں ایرانی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ [دیکھئے: مذکورہ بالا کتاب کا صفحہ 173]

یہ امداد ان رقوم کے سوا ہے جو حوثی کو شیعہ مؤسسات اور ادارے بھیجتے ہیں مثلاً ایرانی شہر "قم" کا ادارہ "مؤسسۃ انصارین" لندن کا "مؤسسۃ خوئی"، کویت کا "مؤسسۃ الثقلین"، اور لبنانی حزب اللہ کے تابع ادارے۔ ان کے علاوہ دیگر کئی شیعہ ادارے اور تنظیمیں بھی حوثی کو امدادی رقوم کی ترسیل جاری رکھتی ہیں۔ [دیکھئے: الزہر والحرر "اتر داعشی فی الیمن"، صفحہ 172]

یمنی حکومت کے قریبی ذرائع نے یہ بات بیان کی کہ الصعدہ کی لڑائی کے دوران اور اس سے پہلے حوثی کی مدد کے لئے سعودی شیعہ بھی مالی امداد بھیجتے رہے ہیں۔ [دیکھئے: اخبار "الوطن القطریہ"، 17 ستمبر 2004ء کا شمارہ۔]

اسی لئے یمن کے رئیس علی عبداللہ صالح نے بھی ایک خطاب میں شیعہ اور ایرانی حکومت کی طرف سے حوثی کو ملنے والی امداد کی طرف اشارہ کیا کیونکہ حوثی کی تنظیم کو اتنی بھاری مقدار میں مالی اور عسکری امداد اندرون یمن سے ملنا ممکن ہی نہیں۔ عسکری امداد کی صورت یہ تھی کہ عراقی شیعہ اور ایرانی انقلابی گارڈز کے افراد یمن میں قتل و غارت کے مظاہروں اور دہشت گردی کی وارداتوں کے لئے تربیت دینے کے لئے یمن آتے رہے ہیں۔ [دیکھئے: الزہر والحرر "التمرد الشیعہ فی الیمن"، صفحہ 176۔]

چنانچہ "اخبار الیوم" روزنامہ اپنے ایک شمارے میں لکھتا ہے کہ حوثی کے کارکنان میں سے گرفتار

ہونے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ ایرانی انقلابی گارڈز اور عراقی شیعہ کے معسکرات میں دہشت گردی کی تربیت لیتے رہے ہیں۔ [دیکھئے: انور قاسم انصاری کا مضمون "تسرد الحوثی فی الیمن" صاحب مضمون "مرکز جزیرہ عربیہ برائے تحقیق و بحث" کا چیئر مین، اور یعنی اخبار "الرشد" کا چیف ایڈیٹر ہے۔ نیز دیکھئے: "مجلۃ البیان"۔
"الاتحادی الاستراتیجی" رپورٹ ملاحظہ فرمائیں جو 1427 ہجری کو نشر کی گئی، صفحہ 319-419۔

یعنی عدالت عالیہ نے جاسوس بچی حسین الدلیلی کو سزائے موت سنائی جبکہ اس نے اپنی گرفتاری کے بعد ایرانی حکومت کے لئے خفیہ رازوں کے حصول کے لئے جاسوسی کرنے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس نے حوثی کی تنظیم اور ایرانی انٹیلی جنس کے روابط کا اقرار بھی کیا تھا [دیکھئے: اخبار "الحیلۃ اللندیہ" 30 مئی 2005ء کا شمارہ، اسی طرح سعودی عرب کا اخبار "الوطن" 30 مئی 2005ء کا شمارہ نمبر 1704۔ لیکن فی الحال اس کو معافی دے دی گئی ہے اور اس کی سزائے موت میں تبدیلی کر کے سزائیں تخفیف کر دی گئی ہے۔] جو ایرانی شیعہ حکومت کی یمن میں سیاسی مداخلت اور شیعہ گروپوں کو حکومت مخالفت کا روڈ انیوں پر ابھارنے کی سرپرستی کی دلیل ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ یعنی حکومت کی طرف سے ایک طرح کا باقاعدہ اعلان تھا کہ ایران صعدہ شہر کی لڑائی میں حوثی کی ہر طرح کی خفیہ مدد کر رہا ہے۔

حوثی نے بھی آہستہ آہستہ اپنا تعلق حزب اللہ کے ساتھ ظاہر کرنا شروع کر دیا وہ کبھی حزب اللہ کی تعریف کرتا ہے اور کبھی اسے شاندار، قابل اتباع مثال قرار دیتا ہے حتیٰ کہ اب وہ اپنے بعض مراکز اور مظاہرات میں حزب اللہ لبنانی کے جھنڈے بھی لہرائنا شروع ہو گیا ہے۔ [دیکھئے: انور قاسم انصاری کا مضمون: "تسرد الحوثی فی الیمن" اور مجلۃ البیان کی رپورٹ: تیسرا طبع 1427ء، صفحہ 391-419 بعنوان "التفرار الازیدی الاستراتیجی"۔]

حوثی کی انہی "خدمات" کے صلے میں نجف کے حوزہ علمیہ اور "قم" کے حوزہ علمیہ نے دو بیان جاری کئے ہیں جس میں حوثی کی تعریف و توصیف کی گئی ہے اور اس کی تنظیم کا دفاع کیا گیا ہے۔ جبکہ حوثی کی بغاوت اور دہشت گردی میں رکاوٹ بننے والی یعنی حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ اس بیان میں اثنا عشری شیعہ کی تنظیم کو یمن میں مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دینے کا پُر زور مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔

حوزہ علمیہ کا یہ بیان حوثی کی تنظیم کے ساتھ گہرے تعلقات کی واضح دلیل ہے۔ خصوصاً جبکہ ان حوزہ علمیہ کو عراق میں سنی مسلمانوں کے قتل و غارت اور نسلی فسادات کے خلاف بیان دینے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔

اور انہوں نے جیش المہدی اور لشکر بدر کے ہاتھوں عراقی سنی مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے کے لئے بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ [حوزہ علمیہ نجف اور قم کا بیان "الحرب فی الصعدہ" کتاب کے صفحہ 111-103 پر ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح: الزہر والجر کے صفحہ 281 کو دیکھیں۔ نیز یمن کے علمائے کرام کا نجف اور قم کے بیانات پر رد بھی اسی کتاب کے صفحہ 305 پر دیکھیں۔ نیز: کتاب "الحرب فی صعدہ" کے صفحہ 114-111 پر دیکھیں]

لبنانی حزب اللہ کے اعلانیہ اور خفیہ

اغراض و مقاصد کیا ہیں؟

حزب اللہ اپنے جن مقاصد کا برملا اظہار کرتی اور اعلان کرتی ہے وہ یہ ہیں:

- ۱۔ حزب اللہ، اسرائیل کے لبنان پر قبضے کے خلاف اسلامی مزاحمتی تحریک ہے۔
- ۲۔ حزب اللہ فلسطین میں واقع اسلامی مقدس مقامات کی آزادی کے لئے برسرِ پیکار ہے۔ لیکن حزب اللہ کے یہ نمائشی نعرے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے، مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی امداد وصول کرنے اور اپنے خفیہ منصوبوں کی پردہ پوشی کے لئے ہیں۔ حزب اللہ ایرانی مالی وسائل کے ذریعے سے لبنانی عوام کو بہت سارے فلاحی منصوبے دینے میں کامیاب ہو گئی ہے جس سے حزب اللہ کی عوامی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔

جبکہ حزب اللہ کے خفیہ مقاصد و اہداف یہ ہیں:

- ۱۔ لبنان میں شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت کرنا۔
- ۲۔ لبنان میں شیعہ کو ہمیشہ کے لئے مضبوط مقام دلانا۔
- ۳۔ لبنانی اقتدار میں غلبہ حاصل کرنا۔
- ۴۔ ایرانی مفادات کی تکمیل کے لئے علاقے میں فضا ہموار کرنا تاکہ ایران جب چاہے اپنے قومی شیعہ مقاصد کے حصول کے لئے با آسانی کارروائی کر سکے۔ اسی لئے لبنانی حکومتی ڈھانچے کو کاری ضربیں لگائی گئی ہیں اور لبنان کو اسرائیل کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے تاکہ لبنان پر حزب اللہ کا تسلط اور غلبہ یقینی ہو سکے۔ شیعہ کی یہ کارروائی ایرانی شیعہ انقلاب کو اسلامی ممالک میں فروغ دینے کی ایک کوشش

ہے تاکہ شیعہ مذہب کے پیروکار ممالک کا قیام عمل میں آسکے جیسا کہ وہ خفیہ منصوبہ سازی کرتے رہتے ہیں اور ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بھرپور کوششیں بھی کرتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ ان کافروں کے مکر و فریب اور سازشوں کو باطل کر کے چھوڑے گا۔ ان شاء اللہ

لبنانی حزب اللہ کا خمینی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

خمینی کون ہے؟ خمینی کے عقائد کیا ہیں؟

حزب اللہ کا خمینی سے وہی تعلق ہے جو روح کا جسم کے ساتھ ہے۔ حزب اللہ نے خمینی ہی سے سیاست کا اسلوب سیکھا ہے۔ اور خمینی ہی کے قائم کئے ہوئے منہج کے مطابق عالم اسلام میں شیعہ مذہب کو غالب کرنے کی کوششیں کرتی ہے۔ خمینی حزب اللہ اور اس کے ارکان کا روحانی اور سیاسی راہنما ہے۔ اس نے ایرانی شیعہ کے متعدد مسؤل متعین کئے تاکہ وہ لبنانی حزب اللہ کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اپنے روحانی قائد تک پہنچاتے رہیں۔ خمینی نے اپنی دفاعی مجلس [خمینی کی دفاعی مجلس اعلیٰ ان افراد پر مشتمل ہے: علی الخامنہ ای، علی اکبر باشی، رفیعانی اور حسن دفائی۔ یہ تینوں افراد حزب اللہ کی کارروائیوں اور ان کی امدادی ضروریات کا براہ راست انتظام کرتے ہیں] اعلیٰ کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ براہ راست حزب اللہ کی سرپرستی کرے اور خمینی کی ہدایات و احکامات حزب اللہ تک پہنچائے۔ لہذا حزب اللہ کا لیڈر خمینی ہی مقرر کرتا تھا [دیکھئے: "الشرع"، میگزین کی حزب اللہ کے متعلق فائل، 17 مارچ 1986ء صفحہ 19، بحوالہ: نائل و حزب اللہ، مؤلفہ: توفیق المذہبی، صفحہ 141-140]

ایک ایرانی ویب سائٹ نے انٹرنیٹ پر ایک نادر شرعی ذمہ داری پر مشتمل بیان جاری کیا ہے جو خمینی نے حسن نصر اللہ کو اپنا لبنانی وکیل بنا کر دیا تھا۔ کیونکہ خمینی شیعہ کا دینی مذہبی راہنما تھا۔ اس بیان کے مطابق خمینی نے حسن نصر اللہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ شرعی مسائل میں لوگوں کی راہنمائی کرے، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جمع کر کے خود لوگوں میں تقسیم کرے کیونکہ لبنانی شیعہ کا دینی اور روحانی راہنما حسن نصر اللہ ہے جو خمینی کا وکیل ہے۔

جبکہ ایک اور سائٹ جسے ایرانی گارڈز کا سابق راہنما محسن رضائی چلاتا ہے نے یہ وضاحت کی ہے کہ 1981ء میں خمینی نے حسن نصر اللہ کا شاعر اور استقبال کیا۔ جبکہ حسن نصر اللہ 21 سال کا جوان رعنا تھا۔ اس

کے ساتھ شیعہ تنظیم "اہل الشیعہ" کے کچھ دیگر قائدین بھی تھے۔ یہ ملاقات تہران کے شمال میں حسینہ ہماران نامی جگہ پر ہوئی تھی۔

سائٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خمینی نے حسن نصر اللہ اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ وہ عنقریب ایرانی مدد سے لبنانی افواج کو شکست دینے کے قابل ہو جائیں گے۔

اسی ملاقات میں خمینی نے حسن نصر اللہ کو شرعی شوقیت جاری کیا کہ وہ لوگوں سے خمس، زکوٰۃ، کفارات کی ادائیگی کا مال وصول کرنے اور دیگر شرعی احتسابات اور مسائل کے حل کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی صوابدید پر ان اموال کو شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت میں خرچ کر سکتا ہے۔ خمینی کی طرف سے حسن نصر اللہ کو ملنے والا یہ شوقیت نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جو حسن نصر اللہ کے مقام کی وضاحت بھی کرتا ہے کیونکہ عموماً خمینی شیعہ علماء کو اس قسم کے شوقیت جاری رکھنے میں نہایت محتاط تھا۔ لیکن حسن نصر اللہ کو ملنے والا شوقیت خمینی کے حسن نصر اللہ پر بے پناہ اعتماد کا اظہار ہے۔

کتاب کے آخر میں ملحق ضمیمہ جات میں آپ وہ عربی عبارت بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جس میں خمینی کی طرف سے دی جانے والی اجازت اور شوقیت کا تذکرہ ہے۔ ایران میں رائج ہجری شمس کیلنڈر کے مطابق اس کی تاریخ بھی درج ہے۔ اس شوقیت میں خمینی نے حسن نصر اللہ کو "حجۃ الاسلام الحاج سید حسن نصر اللہ" کا لقب دیا ہے۔ یہ لقب شیعہ کے حوزہ علمیہ کے نزدیک بلند ڈگری اور اعلیٰ ترین علمی منصب کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔

خمینی کی موت کے بعد ایرانی انقلاب کا مرشد علی خامنہ ای بنا۔ اب وہی شیعہ کا ولی اور فقیہ ہے۔ حزب اللہ اسی سے دینی اور سیاسی راہنمائی لیتی ہے۔ ایرانی انقلاب کے موجودہ مرشد علی خامنہ ای نے لبنان میں شیعہ کے دینی اور احتسابی امور کے لئے شیخ محمد یزبک اور حسن نصر اللہ کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ یہ دونوں افراد علی خامنہ ای کی نیابت کرتے ہوئے شیعہ آبادی سے تمام شرعی حقوق وصول کریں گے اور شیعہ مفادات میں خرچ کریں گے۔ یہ دونوں افراد اپنے نائبین بھی مقرر کر سکیں گے۔ [دیکھئے: "السمیر" اخبار مؤرخہ: 1995/5/18ء]

خمینی وہ شخص ہے جس نے شیعہ میں ولایت فقیہ کے عقیدے کی بنیاد رکھی اور اس نظریے کی ترویج

میں بھرپور کوشش کی۔ [ثمنی انقلاب کی ابتدا میں بعض سنی مسلمانوں نے ثمنی کے پُر فریب نعروں اور گمراہ کن اعلانات کے دعوے میں آکر اس کی پُر زور حمایت کی تھی۔ ثمنی اپنی جلاوطنی میں اسلامی انقلاب اور اسلامی اتحاد نیز مقدس مقامات کی آزادی جیسے دُکھ نعرے لگایا کرتا تھا۔ مگر جب اس کی حکومت ایران میں قائم ہو گئی تو اس کا اصلی خونخوار چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اس نے حکومت سنبھالنے ہی سنی علماء کو قتل کروا دیا اور بے گناہ سنی مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا۔ قتل ہونے والے سنی علماء میں سے جناب احمد مفتی زادہ کا نام نہایت معتبر ہے۔ ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے دارالحکومت تہران میں سنی مسلمانوں کے لئے مسجد کی تعمیر کی اجازت مانگی تھی۔ ان کے اس ”جرم عظیم“ کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا جہاں وہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے شہید ہو گئے۔

ان کا جرم اس دارالحکومت میں تھا جس میں یہودیوں کے معبد خانے، عیسائیوں کے گرجے، مجوسیوں کے معبد خانے اور زرتشت کے پیروکاروں کے عبادت خانے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس طرح تہران دنیا کا وہ انوکھا دارالحکومت ہے جہاں ہر مذہب کے عبادت خانے موجود ہیں لیکن سنی مسلمانوں کے لئے مسجد موجود نہیں ہے۔ بلکہ اسے بنانے کا مطالبہ کرتا بھی جرم عظیم ہے۔

ثمنی وہ شخص ہے جو اپنے خطابات میں امریکہ کو ”شیطان اکبر“ کہہ کر لاکھارتا رہتا تھا لیکن اندر خانے نہایت بے شرمی کے ساتھ امریکی اسلحہ بارود بھی خریدتا رہا جیسا کہ ایران عراق جنگ کے دوران اس نے کیا۔

امریکی صدر ریگن کے دور میں اس خفیہ تجارت کو ”ایران گیٹ“ کا نام دیا گیا تھا۔ اسی طرح سنڈے ٹائمز نے 1981/7/26ء کی اشاعت میں ایک نقشے کی مدد سے وضاحت کی کہ کس طرح ارجنٹائن کا طیارہ اسرائیلی اسلحہ ایران کو سپلائی کرتا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی اسلحے کی تجارت کی تحقیق جامعہ الدول العربیہ کے محققین نے بھی کی ہے۔ لہذا اس یونیورسٹی سے شائع ہونے والی خصوصی رپورٹ میں اس گہرے تعاون کو واضح کیا گیا ہے۔ نیز ظلیجی ممالک کو ایرانی خطرے سے متنبہ کیا گیا ہے۔ ایران کا یہ گھناؤنا کردار، اس کے بیت المقدس کو اسرائیلیوں سے آزاد کرنے کے گمراہ کن نعروں کی قلعی کھولنے کے لئے کافی ہے۔

یونیورسٹی کی رپورٹ دیکھئے بحوالہ: (ق 4715، د۔ ع 88، ج 3۔ 1987/9/22ء) ایران اسرائیل تعلقات کی گہرائی کو سمجھنے کے لئے اور ان کی اسلحے کی تجارت کی تفصیل کے لئے دیکھئے: شیخ محمد مال اللہ کی کتاب: ”موقف الشيعة من أهل السنة“، صفحہ 126 اور اس کے بعد والے صفحات۔

اس کے علاوہ جناب سنی سلامہ اور حافظ عبداللہ کی مشترکہ کتاب ”التعاون التسليحي الايرانى الصهيونى عرض و تحليل“ کا مطالعہ کریں [شیعہ کے نزدیک ثمنی وہ معتبر فقیہ ہے جسے نائب امام کے نائب ہونے کے لحاظ سے امام کے تمام اختیارات حاصل ہیں۔ سوائے جہاد اکبر کے۔ یاد رہے کہ ثمنی کے اس نظریے کی شیعہ مذہب میں کوئی بنیاد اور دلیل موجود نہیں ہے۔

ثمنی مذہب و عقیدے کے لحاظ سے رافضی اثنا عشری شیعہ تھا۔ ثمنی کا عقیدہ تھا کہ شیعہ کے آخری تمام انبیائے کرام اور رسولوں سے افضل و برتر ہیں۔ وہ کہتا ہے: ”امام کو وہ مقام محمود اور بلند درجہ اور ایسی نکوینی خلافت و حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم و اقتدار کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان ہوتا ہے اور ہمارے مذہب شیعہ کی ضروریات اور قیمتی امور میں سے ہے کہ ہمارے آخری کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اسے کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پاسکتا۔“ [دیکھئے: ثمنی کی کتاب: ”الحكومة الإسلامية“ طبعہ موسسة تنظيم و نشر ثرات الإمام الحسين، طبعہ رابعہ، صفحہ 75]

ثمنی وحدت الوجود کا بھی قائل ہے، لہذا وہ بیان کرتا ہے: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے مختلف اطوار ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اور کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ وہ ہے اور ہم ہم ہیں۔“ [دیکھئے: ثمنی کی کتاب: ”شرح دعاء السحر“، صفحہ 103]

ثمنی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں زبردست گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے منکر ہونے کا برملا اظہار کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت و مشیت کے تحت حکمرانی حضرت عثمان، معاویہ رضی اللہ عنہما اور یزید رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی تھی۔

لہذا جس رب نے ان اکابر صحابہ کرامؓ اور تابعی کو حکومت عطا فرمائی، ثمنی اس رب سے لاتعلقی اور براءت کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے تمام کام پختہ عقل پر مبنی ہیں اور وہ عقل کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے جو الوہیت، عدل و انصاف اور دینداری کی بہت بلند اور شاندار عمارت بنائے اور پھر یزید، معاویہ اور عثمان جیسے ظالموں کو حکومت دے کر اپنی ہی بنائی عمارت کو برباد کر دے۔ وہ الہ جو نبی کریم کے بعد تاقیامت آنے والے حکمرانوں کی تعیین بھی نہ کرے تاکہ ظلم و جور کی حکومتوں کی تشکیل میں اس کا تعاون نہ ہو۔ ہم ایسے اللہ کو نہ

مانتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ [دیکھئے: مینی کتاب: "کشف الأسرار" صفحہ 116]۔ (نعوذ باللہ)

مینی کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کے اعمال نامے شیعہ مہدی کو پیش کئے جاتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے عقیدے کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے: "شیعی روایت کے مطابق ہمارے اعمال نامے ہر ہفتے دو مرتبہ امام صاحب الزمان سلام اللہ علیہ کو پیش کئے جاتے ہیں۔ [دیکھئے کتاب: "المیعاد فی نظر الإمام الحمینی" صفحہ 368] مینی وہ بد بخت شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ میں ناکام ہو کر گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے: "انبیاء میں سے ہر نبی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے آیا، اس کی آمد کا مقصد دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے حتیٰ کہ خاتم الانبیاء ﷺ جو کہ انسانوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے آئے تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ صرف امام مہدی منتظر ہی وہ شخص ہے جو دنیا کے کونے کونے میں عدل و انصاف قائم کرے گا اور اس کی دعوت ہر لحاظ سے کامیاب ہوگی۔" [دیکھئے کتاب: "مختارات من أحادیث و خطابات الإمام الحمینی، 42/2]

مینی، نبی کریم ﷺ کے خلفائے راشدین پر طعن و تشنیع کا مرتکب بھی ہے۔ لہذا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو قرآن مجید کی مخالفت کرنے کا الزام دیتا ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام پر اتہام لگاتا ہے کہ وہ ان دونوں اصحاب سے قرآن مجید کی مخالفت پر مبنی احکامات کو قبول کر لیتے تھے۔ گویا مینی نے تمام صحابہ کرام کو ان دو خلفائے راشدین کے احکامات کو قبول کرنے کی وجہ سے گمراہ قرار دے دیا ہے۔ جبکہ مینی یہ بھول گیا کہ ان صحابہ کرام میں آل بیت رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ [دیکھئے مینی کی کتاب: "کشف الأسرار" صفحہ 122]

اہل سنت مسلمانوں کو مینی ناہمی قرار دیتا ہے۔ [ناہمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اہل بیت رحمہم اللہ کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتا ہو۔ لیکن شیعہ کے نزدیک ہر سنی مسلمان ناہمی ہے۔ ان کے اس عقیدے کا اقرار شیعہ کے علامہ حسین الدرازی نے اپنی کتاب "المحاسن النعسانیہ فی أجوبة المسائل الخراسانیہ" صفحہ 147 پر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے: "آئمہ شیعہ کی روایات کھلم کھلا اعلان کر رہی ہیں کہ ان کے نزدیک ناہمی سے مراد سنی مسلمان ہے۔" پھر اسی صفحے پر لکھتا ہے: "اس میں کوئی شک نہیں کہ ناہمی سے مراد اہل سنت ہیں" صدوق نے معتبر سند سے "علل الشرائع" نامی کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا: "ناہمی وہ نہیں جو ہم اہل بیت سے دشمنی کرے کیونکہ تمہیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو کہتا ہو کہ میں محمد اور آل محمد کا دشمن ہوں۔ لیکن اصل میں ناہمی تو وہ ہے جو تم سے دشمنی رکھتا ہو حالانکہ اسے علم ہے کہ تم

ہمارے دوست ہو، ہم سے محبت کرتے ہو اور تم ہمارے شیعہ ہو۔" مینی کے نزدیک سنی مسلمان پلید ہیں اور ان کے مال شیعہ کے لئے حلال ہیں، لہذا وہ کہتا ہے: "مضبوط ترین بات یہی ہے کہ ناہمی کا حکم جنگ کرنے والے کافروں کا ہے۔ ان سے غنیمت ملنے والا حلال ہے۔ اس میں سے ٹکس نکالا جائے گا۔ بلکہ ان کے اموال کا ظاہری حکم تو یہ ہے کہ جہاں بھی ملیں انہیں لے لیا جائے اور اس میں سے ٹکس نکالا جائے۔ [دیکھئے اس کی کتاب "تحریر الویلہ" صفحہ 318/1]

مینی یہ بھی کہتا ہے: فواصب اور خوارج، ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ دونوں گروہ نجس ہیں۔ اس میں کوئی توقف کرنے کی ضرورت نہیں۔ [دیکھئے اس کی کتاب: "تحریر الویلہ" 107/1]

مینی کے کفریات اور خرافات کی فہرست بڑی طویل ہے۔ تفصیل کے لئے ڈاکٹر زید العیسیٰ کی کتاب "النخعی والوجه الآخر" (مینی کا دوسرا رخ) وغیرہ کتب کا مطالعہ کریں یا انٹرنیٹ پر درج ذیل ویب سائٹ پر مینی کا حقیقی مکروہ چہرہ ملاحظہ فرمائیں: (<http://www.Khomainy.com>)

لبنانی حزب اللہ کا ایران سے کیا تعلق ہے؟

ایران، حزب اللہ کی سرگ ہے۔ ایران، حزب اللہ کا ہیڈ آفس ہے جہاں سے اسے ہدایات اور احکامات دیئے جاتے ہیں۔ جبکہ حسن نصر اللہ ایران اور لبنان میں ایرانی ملیشیا کے درمیان رابطے کے فرانکس انجام دیتا ہے۔ [دیکھئے: "آئل و حزب اللہ فی حلبہ المجاہدات لتوفیق المدہبی، صفحہ 139]

5 مارچ 1987ء کو منعقدہ ایک اجلاس میں حزب اللہ کے ترجمان ابراہیم الامین نے بیان دیا کہ "ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایران کا جزء ہیں بلکہ ہم لبنان میں ایران اور ایران میں لبنان کی حیثیت رکھتے ہیں۔" (2) [دیکھئے "النہار" اخبار کا 5 مارچ 1987ء کا شمارہ]

جبکہ حزب اللہ کا جنرل میکرٹری حسن نصر اللہ کہتا ہے: ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی حکومت ایسی مملکت ہے جو اسلامی قانون کے مطابق احکامات جاری کرتی ہے اور وہ ایسی حکومت ہے جو مسلمانوں اور عربوں کی مددگار ہے۔ اور ہمارا ایرانی حکومت سے رشتہ باہمی تعاون کا رشتہ ہے۔ ایرانی حکمرانوں کے ساتھ ہمارے گہرے قلبی تعلقات ہیں اور ہم ایرانی حکومت کے ساتھ گہرے روابط میں بندھے ہیں جیسا کہ ہماری مسلح جدوجہد کی دینی

امام مہدی مسجد کا امام الشیخ حسن طرادر کہتا ہے: ”ایران اور لبنان کے لوگ ایک ہی قوم ہیں، اور ان کا ملک بھی ایک ہی ہے۔ اور جیسا کہ ایک بڑے عالم نے فرمایا ہے: ”ہم لبنان کی اس طرح مدد کریں گے جس طرح ہم ایرانی جماعتوں اور تنظیموں کی سیاسی اور فوجی مدد کرتے ہیں۔“ [دیکھئے: ”انصار“ اخبار کا 11 دسمبر 1986ء کا شمارہ]

حزب اللہ کا ترجمان ابراہیم الامین کہتا ہے: ”ہم امام مہدی منتظر کی روپوشی کا عرصہ گزار رہے ہیں۔ لہذا اس دور میں ہمارے قائد، عادل فقہاء ہیں۔“

یہ وہ اہم ترین خصوصیت ہے جس کے ساتھ حزب اللہ لبنانی قوم کو مرجع کرتی ہے کہ ان کا مرجع فقیہ عادل ہے۔ لہذا حزب اللہ فقیہ عادل کی طرف سے جاری کردہ احکامات کی روشنی ہی میں اپنی تحریک کو آگے بڑھاتی ہے۔ [دیکھئے: ”الحركات الإسلامية في لبنان، 147-148] لبنانی حزب اللہ کا نائب جنرل سیکرٹری نعیم قاسم کہتا ہے: ”حزب اللہ اور ایران کے درمیان تعلقات قائم ہوں تاکہ حزب اللہ اپنے علاقے میں ہونے والے نئے تجربے سے استفادہ کر سکے۔ (اس کا مقصد ہے کہ ایران میں خمینی کی قیادت میں ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم ہونے والی حکومت کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے اور اسرائیلی قبضے کے خلاف ایرانی امداد کا حصول ہے)۔ یہ تعلقات بڑی تیزی کے ساتھ گہرے اور مضبوط ہو گئے اور اس کے ثمرات بھی تیزی سے برآمد ہونے لگے، جس کے متعدد اسباب ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

۱۔ ایران اور حزب اللہ دونوں ولایت فقیہ کے نظریے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک عصر حاضر میں خمینی ہی وہ قائد اور ولی ہے جو شیعہ کی ترجمانی کرتا ہے لہذا دونوں عالمی شرعی قیادت کے اتحاد میں متفق ہو گئے۔

۲۔ ایران نے ”اسلامی“ جمہوریہ نظام حکومت کو اختیار کیا ہے جو کہ حزب اللہ کے اسلامی عقائد کے موافق ہے۔ اس طرح ان دونوں کا نظریاتی اتحاد پایا جاتا ہے اگرچہ دونوں کے عملی نظام کی تفصیلات ان کے علاقائی حالات و واقعات کے لحاظ سے قدرے مختلف ہیں۔

۳۔ دونوں کا سیاسی اتحاد ہے۔ ایران نے ہر قسم کے استعمار کے مقابلے میں آزادی کی

کوششیں کی ہیں اور آزادی کی تحریکوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کی ہے۔ خصوصاً اسرائیلی قبضے کے خلاف ایران نے مدد دی ہے۔ حزب اللہ بھی اسرائیلی قبضے کے خلاف جدوجہد کرنے اور غیر ملکی استعمار کے خلاف لڑنے کے خواب دیکھتی ہے جس سے دونوں کے درمیان سیاسی اتحاد قائم ہو گیا ہے۔

۴۔ ایران اسلامی نظام کی عملی تطبیق کی زندہ مثال ہے!!

ایسا نظام جس کی خواہش ہر پکا مسلمان کرتا ہے.....
حتیٰ کہ فییم قاسم نے یہ بھی کہا کہ: ”جیسا کہ حزب اللہ نے مزاحمت کا شاندار تجربہ کیا ہے۔ جس نے
ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ جب حزب اللہ نے جنوبی لبنان، اور البقاع مغربی کو آزاد
کر لیا جس میں ایران کی نہایت مؤثر مدد بھی شامل تھی، تو حزب اللہ نے اپنے اعلان کردہ ہدف کو حاصل کر لیا،
جس کے لئے اس نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اس طرح ایران نے بھی مجاہدین کی مدد کر کے غیر ملکی فوجی قبضے کو
ناکام بنا کر اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ یہ حزب اللہ کی کامیابی تھی، لبنان کی فتح تھی اور ایران کی فتح تھی۔“

اسرائیلی دشمنی اور اس کے خلاف جہاد کے نعرے لگانے والا ایران کس قدر جھوٹا اور فریبی ہے۔ اور اسرائیل کے خلاف حملے کرنے کے اعلانات کس قدر گمراہ کن اور دھوکے پر مبنی ہیں ان کی حقیقت جاننے کے لئے کہ کیسے ایران نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہوئی ہے۔ ایک یہودی صحافی یوسی ملیمان کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں: ”ہر صورت میں یہ ناممکن ہے کہ اسرائیل ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ آور ہو کیونکہ بہت سارے اٹلی جنس افسران نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایران اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، باوجود کہ وہ زبانی کلامی اسرائیل کے خلاف جنگ کے اعلانات کرتا رہتا ہے۔ بلکہ زیادہ احتمال یہی ہے کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات کا رخ عرب ممالک کی طرف ہے اور وہ ہی ان کا نشانہ ہیں۔“ [بحوالہ لاس انجلس ٹائمز۔۔۔ لاہوا اخبار کا شمار نمبر 7931]

مذکورہ بالا یہودی بیان کی تصدیق و تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حزب اللہ کو ایک مستقل سیاسی اور نظریاتی لائحہ عمل کی ضرورت ہے جو ایرانی نقطہ نظر سے مختلف اور عربی اسلامی خصوصیات کا حامل ہو۔ اسے ایسے سیاسی تجربات کی ضرورت ہے جس کے علاقائی سطح پر گہرے تاریخی اثرات موجود ہوں۔ اور اسے ایسے تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے جس میں فی زمانہ رائج تمام آلات موجود ہوں تاکہ حزب اللہ اپنے قدم جما سکے۔ [یہ بیان ڈاکٹر عثمان الغری کا ہے جو لبنانی یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب ”حزب

الله من الحلم الايدى لوجى الى الوقعته السياسية" صفحہ 9 پر لکھی ہے]

ابتداء ہی سے ایران نے حزب اللہ کی تنظیم سازی میں بھرپور بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اہل الشیعہ کے ایک قائد اور حزب اللہ کے بانی سید حسین موسوی نے اہل الشیعہ کے لیڈر کا تحریک آزادی میں شرکت کرنا غیر اسلامی رویہ قرار دیا ہے۔ [حزب اللہ کے "اہل الشیعہ" سے الگ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تھی لیکن اس بات کے غلط ہونے کی تصریح شیعہ مفتی عبدالامیر قبلان جو شیعی مجلس اعلیٰ کا ترجمان بھی ہے اس نے کی تھی: "اہل الشیعہ" شیعہ آبادی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لہذا اہل الشیعہ جو فیصلہ صادر کرتی ہے ہم اسے شیعہ کی مجلس اعلیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ اس لئے اہل جو اعلان کرتی ہے حزب اللہ اس پر کار بند ہو جاتی ہے۔" دیکھئے: المستقبل میگزین، شمارہ نمبر: 346، مؤرخہ: 1983/10/8، بحوالہ: اہل والنجیات، صفحہ 184] اور کہا کہ: اہل کے لیڈر کے کردار کو غیر اسلامی قرار دینا، ایرانی قیادت کا فیصلہ ہے کیونکہ کسی کام کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار ایرانی اسلامی انقلاب کے قائدین کے پاس ہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب تحریک اہل الشیعہ کے چوتھے اجلاس میں مارچ 1982ء کو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایرانی انقلاب کا الٹو انگ ہیں۔

مذکورہ بالا بیان حسن نصر اللہ کے جھوٹ اور دھوکہ دہی کی وضاحت کرتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے 18 مارچ 1996ء کو "الوسط" اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا: "حزب اللہ کا قیام لبنانی کوششوں سے عمل میں آیا ہے۔ اس کے لئے فیصلہ بھی لبنانی عوام کا ہے اور یہ لبنانی عوام کے ارادوں ہی کی امتداد ہے۔ جبکہ ایرانی یا شامی کردار اس میں بعد میں شامل ہوا ہے۔"

حزب اللہ اصل میں ایران ہی کا بیٹا ہے۔ اس بات کی وضاحت حزب اللہ کے سابقہ جنرل سیکرٹری صبحی الطفیل کے اس بیان سے بھی ہوتا ہے کہ: "وہ ایران جمہوریہ کے دورے پر تھا جب ایرانی حکومت کے ساتھ لبنان میں مزاحمتی تحریک شروع کرنے پر ہمارا اتفاق ہوا۔ پھر حزب اللہ نے کام شروع کیا تو ہزاروں ایرانی حزب اللہ کو تربیت دینے اور ان کی مدد کرنے کے لئے لبنان آ گئے۔" (الجزیرہ چینل پر صبحی الطفیل کا انٹرویو دیکھیں جو 2003/7/23ء کو نشر ہوا۔ مکمل بیان الجزیرہ کے انٹرنیٹ سائٹ پر دیکھا جاسکتا ہے)

ایران نے انقلابی گارڈز لبنان روانہ کئے تاکہ حزب اللہ کے عملی قیام کو یقینی بنایا جاسکے اور حزب اللہ کے افراد کو تربیت اور امداد فراہم کی جاسکے۔ اس مقصد کے لئے 2000ء گارڈز روانہ کئے گئے۔ جنہوں نے

لبنان کے البقاع علاقے اور حزب اللہ کے ٹھکانوں میں شیعہ عقائد بھی پھیلائے۔ اپنی شیعہ تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لئے انہوں نے متعدد ہسپتال، مدارس اور فلاحی تنظیمیں بنائیں۔ (دیکھئے: کینٹ کاؤمان کی کتاب: "الحرس الثوری ایرانی" صفحہ 192-139 نیز ڈاکٹر: مسعود اسدالہی کی کتاب "اسلامیون مجتمع تعددی کا، صفحہ 330 دیکھیں)

تہران میں حزب اللہ کا مستقل آفس بھی موجود ہے۔ (دیکھئے: ڈاکٹر مسعود اسدالہی کی کتاب "اسلامیون فی مجتمع تعددی، صفحہ 36) جو مختلف قسم کے میگزین اور کتابیں شائع کرتا ہے جس میں حزب اللہ کی خوب ترجمانی کی جاتی ہے اور اس کی کارکردگی بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کی طرف صادر ہونے والے فیصلوں اور احکامات کی پیروی بھی ان میگزین کی ذمہ داری ہے۔

حزب اللہ اپنی کتابوں میں اس نظریے کا اقرار کرتی ہے کہ ہمارے فقیہ ولی کو جنگ یا صلح کا فیصلہ کرنے کا کلی اختیار ہے۔ (دیکھئے: فیم قاسم کی کتاب: "حزب اللہ" صفحہ 72، مؤلف حزب اللہ، نائب جنرل سیکرٹری ہے) کیونکہ فقیہ ولی کی حکومت و اقتدار کا علاقہ اور وطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ولی فقیہ تمام ممالک کے شیعہ کا حکمران ہے۔ "اسی لئے فیم قاسم تمام ممالک میں موجود شیعہ آبادی کی سیاسی ذمہ داریاں مقرر کیا کرتا تھا جو کسی بھی استعمار کے خلاف نبرد آزما ہوتے تھے۔" (دیکھئے: حوالہ سابق، صفحہ 75)

درج بالا کلام وضاحت کر رہا ہے کہ شیعہ ایران کے انقلابی لیڈر کے مکمل پیروکار ہیں اور ان کا اپنے قائد کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ وہ اپنے قائد کی تنظیموں اور اس کے مفادات کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ خصوصاً ایسا تحریکیں اور تنظیمیں جو براہ راست ایرانی حکومت کے تابع ہیں۔ جیسا کہ حزب اللہ اور اس کی ذیلی تنظیمیں ہیں۔

کیا لبنانی حزب اللہ ایران، عراق جنگ میں شریک ہوئی تھی؟

کیا حزب اللہ نے احواز کے سنی طلباء کی

تحریک کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا تھا؟

1999ء میں ایران میں سنی طلباء کی تحریک کے دوران سیکورٹی فورسز اور طلباء کے درمیان خونریز

جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں خوزستان کے شہر احواز کے رہائشی لوگ بھی ملوث ہوئے اور بڑی قتل و غارت ہوئی۔ اس قتل و غارت کے بارے میں متعدد ذرائع اور طلباء کے قائدین کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز میں سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ جنگجو شامل تھے۔ انہوں نے فورسز کے ساتھ مل کر طلباء تحریک کا قلع قمع کر دیا اور ایرانی عربوں کی تحریک ختم کر دی گئی۔

ایرانی سیکورٹی فورسز میں داخل ہونے والے یہ جنگجو اور ایرانی انقلابی گارڈز میں گھسنے والے یہ دہشت گرد بدر تنظیم کے عسکری ونگ کے ارکان تھے جن کا تعلق عراق میں اسلامی انقلابی مجلس اعلیٰ سے تھا۔

البتہ ان ارکان میں سے بعض کا لہجہ لبنانی، اور شامی لوگوں جیسا تھا۔ جس سے ان لوگوں کی قومیت کے بارے میں سوالات ابھرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کس ملک کے باشندے تھے لیکن کچھ دن قبل اس راز کو حزب اللہ کے باپ علی اکبر مختشمی یور نے فاش کر دیا ہے۔ علی اکبر مختشمی بورشام میں ایرانی سفیر رہا ہے اور ایران کا سابقہ وزیر داخلہ ہے اور فلسطین کی تحریک آزادی کی عالمی مجلس کا جنرل سیکرٹری ہے۔ اسی شخص نے 1982ء کو اہل الشیعہ کے بطن سے حزب اللہ کو نکالا تھا۔ علی اکبر مختشمی نے انکشاف کیا ہے کہ حزب اللہ کے جنگجو ایران عراق جنگ کے دوران ایرانی انقلابی فوجوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑتے رہے ہیں۔

علی اکبر مختشمی بورگزشتہ بدھ کو ایرانی اخبار ”شرق“ کو انٹرویو دیتے ہوئے حزب اللہ کے کردار اور لبنان میں ہونے والی گزشتہ جنگ کے بارے میں حقائق بیان کر رہا تھا۔ درج ذیل بیان میں خمینی کے شاگرد جیہ الاسلام مختشمی نے مزید وضاحت کر دی ہے، وہ کہتا ہے ”حزب اللہ کی مہارت کا کچھ حصہ تو وہ ہے جو اس نے جنگی تجربات سے سیکھا ہے اور دوسرا حصہ ان کی تربیت سے حاصل شدہ ہے۔ بلاشبہ حزب اللہ نے ایران عراق جنگ کے دوران شاندار جنگی مہارت حاصل کی تھی کیونکہ حزب اللہ کے جنگجو ہماری افواج کے ساتھ مل کر یا براہ راست بھی جنگ لڑتے رہے تھے۔“

مختشمی بور حزب اللہ کی قوت کے اصل مصدر کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہتا ہے ”گزشتہ کچھ سالوں میں حزب اللہ نے اپنی سیاسی اور عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان اور پورے علاقے میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کی عسکری تربیت اور مہارت میں اضافہ ہوا ہے۔“

اور کج ہم دیکھتے ہیں کہ بیروت، اللجوب، اور البقاع کے دور دراز علاقوں میں جہاں حزب اللہ کے

قائدین رہائش پذیر تھے اور حزب اللہ کے میزائل اڈے جو جنوب میں واقع تھے اور اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے وہ برباد ہو گئے ہیں لیکن اس تباہی کے باوجود آج بھی حزب اللہ اسرائیل پر مسلسل میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حزب اللہ کی اسی مہارت کی وجہ سے اسرائیل اپنی بری افواج کو لبنان میں آہستہ آہستہ داخل کرنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے ان کے لئے زمینی راستوں سے لبنان میں داخل ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ البتہ انہیں بہت جھیل، مارون الراس اور عیترون کے تین علاقوں میں بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔“

مختشمی کے بیان کے مطابق حزب اللہ کے قیام سے لے کر اب تک تقریباً ایک لاکھ شیعہ جنگجو جنگی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں۔ ہر تربیتی کیمپ میں 300 جنگجو شریک ہوئے تھے اور اب تک لبنان اور ایران میں بے شمار تربیتی کیمپ لگائے جا چکے ہیں۔ (مختشمی کا یہ انٹرویو علی نوری زادہ نے ”شرق الاوسط“ اخبار کے لئے 1427/7/11 ہجری بموافق 2006/9/5 کو لیا تھا۔ شمارہ نمبر 101112 ہے اس کا عنوان ہے: ”علی اکبر مختشمی یور کا اعتراف“)

علی اکبر مختشمی یور ایران کے شام میں سابق سفیر اور سابق وزیر داخلہ ہیں۔

علی اکبر نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ ایران عراق جنگ میں ایرانی افواج کے ساتھ شریک رہی ہے اور احواز کے سنی طلباء کی تحریک کو کچلنے میں بھی اس نے بھرپور شرکت کی ہے۔

کیا حزب اللہ اپنے خطابات اور

خارجی سیاست میں ”تقیہ“ پر عمل کرتی ہے؟

شیعہ امامیہ کے فرقوں میں سے حزب اللہ اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں سب سے زیادہ ”تقیہ“ کا استعمال کرتی ہے۔

شیعہ مؤلف کاظم المصباح اپنی کتاب ”الامام المہدی و مفہوم الانتظار“ کے صفحہ 240 پر لکھتا ہے: ”تقیہ پر عمل کرنے والا بلند مرتبہ مجاہد ہے۔ لیکن وہ حالات و واقعات کی روشنی میں بصیرت اور احتیاط کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے غافل ہو کر بیٹھا نہیں رہتا جیسا کہ سادہ لوح مومنوں کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے۔ تقیہ محض مخفی عمل ہی نہیں کہ جس پر کوئی شیعہ سیاسی یا دینی

کیا حزب اللہ نے واقعی جہاد

فی سبیل اللہ کا پرچم لہرایا ہے؟

حزب اللہ لبنانی سرزمین پر جہاد کرنے کی بڑی شوقین ہے لیکن اسے کبھی بھی لبنانی حدود سے باہر نکل کر جہاد کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ حزب اللہ لبنان کے ہر اس شخص کی دوست ہے جو اس کے اغراض و مقاصد کا حمایتی ہے خواہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا دروزی مذہب کا ہوا، اسے کچھ غرض نہیں۔ تو جس جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ایسا ہوا اور وہ اپنے کردار عمل میں منافقانہ روش پر چل رہی ہو اس کا جہاد اسلامی جہاد ہو سکتا ہے اور نہ اس کی قتل و غارت اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے کبھی جاسکتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! ایک آدمی صرف مالی غنیمت حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا ہے، دوسرا شخص دنیوی شہرت کے لئے جنگ لڑتا ہے اور تیسرا شخص اپنی بہادی اور شجاعت کی داد حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے۔ ان تینوں میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ قَاتَلَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.“

”جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لئے جہاد کیا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔“ (دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب من قاتل لکلمۃ اللہ ہی العلیا حدیث نمبر-281، صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب من قاتل لکلمۃ اللہ ہی العلیا، حدیث نمبر-1904) اور باقی سب ریاکاری یا دنیاوی مقصد کے حصول کی وجہ سے بے کار ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی کے لئے جہاد کیا وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔“ آپ کے اس فرمان میں مذکور اللہ کے کلمے سے مراد اسلام کی دعوت ہے۔“ (دیکھئے: فتح الباری شرح صحیح البخاری، مؤلف: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ: 34/6)

میں (مؤلف کتاب) کہتا ہوں کہ حزب اللہ جس مقصد کے لئے جہاد کرتی ہے وہ صرف لبنانی حدود کی حفاظت ہے تاکہ شیعہ رافضی عقیدہ سر بلند ہو جائے۔ (اس طرح حزب اللہ صرف لبنانی علاقے کی خاطر ہی

جماعت پوشیدہ طور پر عمل پیرا ہوتی ہے بلکہ یہ عمل کرنے کا ایک اسلوب ہے جو حزب اللہ کے طریقے کے مطابق ہے اور ظاہری طور پر ہر قسم کے نامساعد اور موافق سیاسی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔“

مؤلف اگلے صفحے پر لکھتا ہے: ”لیکن بعض اوقات خطیب اور مبلغ خفیہ کلام کرنے، صراحت کو ترک کرنے اور اپنی کلام کو خوب پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عام حالات میں اگر خطیب وضاحت کر دے تو اس کے نقصانات سامنے آ جاتے ہیں۔“

میں (مؤلف کتاب حزب اللہ کون ہے؟) کہتا ہوں: ”جو شخص اس شیعہ مؤلف کی کلام پر غور کرے گا وہ جان لے گا کہ حزب اللہ اپنے خطابات میں تقیہ پر عمل کرتی ہے اور اب تو ان کے گھر کے بھیدی نے بھی لٹکا ڈھادی ہے۔“

حالانکہ ہم نے بارہا سنی مسلمانوں کو تنبیہ کی تھی کہ حزب اللہ اور اس کے لیڈر حسن نصر اللہ کے خطابات کی تصدیق مت کرو، ان کی فریب دہی میں مت آؤ کیونکہ رافضی شیعہ کا مذہب باطنی ہے۔ شیعہ زبان سے کچھ کہتا ہے جیسا کہ ان کے علامہ کاظم المصباح نے وضاحت کر دی ہے، جبکہ شیعہ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے کلام کو خوب مکاری اور فریب دہی سے مزین کرتے ہیں جیسا کہ حسن نصر اللہ اپنی تقاریر میں کرتا ہے اور بعض اوقات کچھ امور پر جان بوجھ کر بات چیت نہیں کرتا کہ مبادا اس کی زبان سے اندرونی حقیقت ہی نہ پھسل جائے جو اس کی جماعت پر لعن طعن کا باعث بن جائے۔ لہذا شیعہ کے اس دھوکے سے سنی مسلمانوں کو تعجب نہیں ہونا چاہئے کیونکہ امامیہ کا مذہب شیعہ کو تقیہ کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ ان کا مذہب تو اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے جبکہ مقصود تقیہ ہو۔

شیعہ کی کتاب ”وسائل الشیعہ“ (یہ کتاب الحر العالی کی ہے۔ دیکھئے: 136/16) میں ابو عبد اللہ سے منقول ہے: ”جب شیعہ آدمی کراہت اور اضطرابی حالت میں تقیہ کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھا لے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گی۔“

امام شافعی رحمہ اللہ نے رافضہ کی صفت بیان کرتے ہوئے صحیح ہی فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں: ”میں نے رافضی شیعہ سے بڑھ کر جھوٹی گواہی دینے والی قوم نہیں دیکھی۔“

نہیں لڑتی بلکہ اپنے اثر و نفوذ والے علاقوں میں شیعہ مذہب کی نشر و شاعت کے لئے جدوجہد کرتی ہے۔
اگر حزب اللہ کے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ مان بھی لیا جائے تو پھر سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب فلسطینی جہاد کے دو بلند مرتبہ رہنما جناب احمد یاسین اور عبدالعزیز الرنتیسی رحمہما اللہ اسرائیلی میزائلوں سے شہید ہوئے تو حزب اللہ نے ایکشن کیوں نہ لیا اور اسے اسرائیل پر ایک بھی میزائل فائر کرنے کی توفیق کیوں نہ ہوئی؟ کیا مقبوضہ فلسطین اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لئے جہاد کرنا، ایرانی اور شامی سیاسی مفادات اور اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے لڑنے سے زیادہ اولیٰ اور افضل نہیں ہے؟

لیجئے حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری اور سربراہ حسن نصر اللہ کا اعتراف حقیقت سنئے جو کہتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اس کی جنگ عقیدے اور دین کی جنگ نہیں ہے۔ حالیہ اسرائیل اور لبنانی جنگ جو 34 دن جاری رہی، اس کے اختتام پر جبکہ لبنانی سڑک پر ہی بڑی طرح تباہ ہو چکا ہے اور جس کی بنیاد صرف دو اسرائیلی فوجیوں کے اغوا کے ڈرامے پر تھی، حسن نصر اللہ نے لبنانی ٹی وی چینل New TV پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا جو 27 جولائی 2006ء کو نشر ہوا کہ ”اگر اسے علم ہوتا کہ دو اسرائیلی فوجیوں کے اغوا پر اس قدر تباہی و بربادی ہو گی تو وہ اس کام کا حکم کبھی نہ دیتے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حزب اللہ کی قیادت کو ایک فیصد بھی امید نہ تھی کہ دو فوجیوں کے اغوا پر اس قدر شدید فوجی حملے ہوں گے اور اتنی زیادہ تباہی و بربادی لبنان کا مقدر بن جائے گی کیونکہ جنگی تاریخ میں اس قدر شدید حملوں کی مثال نہیں ملتی۔“

حسن نصر اللہ نے اس بات کی توثیق بھی کی کہ وہ آئندہ کبھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ (حسن نصر اللہ کی یہ وضاحت ”الشرق الاوسط“ اخبار کے شمارہ نمبر 10135، 8/28، 2006ء کے شمارے میں دیکھی جاسکتی ہے)

حزب اللہ کے اس اعتراف میں اس کی شکست کا اقرار نمایاں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ حالیہ جنگ میں فاتح نہیں بلکہ شکست خوردہ ہے۔ اس کے اس اعتراف کا مطلب ایک زوردار طمانچہ ہے جو ہر اس شخص کی گال پر لگا ہے جو حسن نصر اللہ کے لئے تالیاں بجاتے نہ تھکتے تھے اور اس سے نہایت متاثر رہ کر اسے اسلامی ہیرو مانے بیٹھتے تھے۔

شیعہ کا منہج اور طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی نہیں

بلکہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لئے ملت اسلامیہ کے مفادات کو قتل بھی کرنا پڑے تو شیعہ اس سے دریغ نہیں کرتے۔ اسی لئے ڈاکٹر علی عبدالباقی لکھتے ہیں: بلاشبہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ شیعہ کی جدوجہد اور کارکردگی خالصتاً شیعہ گروہی جدوجہد ہے، خواہ یہ جدوجہد ایران میں ہو، عراق میں ہو، افغانستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی حصہ میں ہو۔ شیعہ اپنے گروہ کے ذاتی مفادات اور مصلحت کے حصول کے لئے کوشش کرتے ہیں اور امت اسلامیہ کے مفادات اور مصالح کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے مفادات کے لئے کوشش کریں گے اگرچہ ملت اسلامیہ کے مفادات کو نقصان پہنچا کر ہی حاصل ہوں۔ (ڈاکٹر صاحب کا مضمون انٹرنیٹ سائٹ ”مفکرۃ الاسلام“ پر پھل شکون، حرب العصابات املنا فی ہزیمۃ بن مہیون“ کے عنوان سے دیکھا جاسکتا ہے۔ مورخہ 2006/8/21)

کیا حزب اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی قائل ہے؟

سوال یہ ہے کہ کیا حزب اللہ کسی بھی اسلامی مقبوضہ ملک یا علاقے جیسے فلسطین، کشمیر وغیرہ میں، ان کی آزادی کے لئے کوششیں کرتی ہے؟ کیا ان علاقوں کی آزادی حزب اللہ کے مقاصد میں شامل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے (جو کہ حزب اللہ کا مذہب بھی ہے) کے نزدیک مہدی منتظر کے نمودار ہونے تک جہاد معطل ہے کیونکہ شیعہ روایات کے مطابق شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ”امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور ان کے پرچم جہاد بلند کرنے سے پہلے جو شخص بھی علم جہاد بلند کرے گا وہ طاغوت ہوگا۔ (دیکھئے: النعمانی کی کتاب ”الغیۃ“ صفحہ 70) امام مہدی آئیں گے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے صلح کر لیں گے۔ (یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ امام مہدی جب نمودار ہوں گے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے صلح کیوں کریں گے؟ وہ یہودی ظالموں غاصبوں سے بیت المقدس کو آزاد کیوں نہیں کرائیں گے؟) اور آل داؤد یعنی یہودیوں کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے، کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے، اور اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے کیونکہ یہ شیعہ کے دشمن ہیں۔ (حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما) کو ان کی قبروں سے نکال کر سولی پر چڑھائیں گے پھر ان کی لاشیں آگ سے جلائیں گے۔“ (دیکھئے: النعمانی کی کتاب ”الغیۃ“)

حزب اللہ کے نائب جنرل سیکرٹری نعیم قاسم نے (دیکھئے: اس کی کتاب ”حزب اللہ۔۔۔“

الحج۔۔۔ التجر بہ۔۔۔ المستقبل“ صفحہ 50۔) اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کہا: ”چونکہ عسکری جہاد دشمن کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ہوتا ہے اس لئے یہ ہماری کتاب کے موضوع سے براہ راست تعلق رکھتا ہے اس لئے ہم اس بحث کو خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں۔
فقہاء نے جہاد کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

- 1- ابتدائی جہاد: یعنی مسلمان دشمن پر حملہ آور ہوں اور ان کے علاقے میں داخل ہو جائیں۔ اس جہاد کا مقصد اپنی زمینیں واپس لینا نہیں ہوتا، نہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم کے ساتھ خاص ہے۔ اس دور میں جبکہ ہمارا امام مہدی منتظر غائب ہے۔ اس لئے یہ جہاد ممکن نہیں ہے۔
- 2- دفاعی جہاد: جب استعماری قوت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو اپنے ملک قوم اور اپنی جانوں کی حفاظت کے لئے یہ جہاد شروع بلکہ واجب ہے۔“

صفحہ 51 مذکور بالا کتاب میں پھر لکھتا ہے: لیکن جہاد کا فیصلہ کرنا ولی فقیہ کا کام ہے جو دفاعی جہاد کے حالات پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرے گا۔ وہی جہاد کے قواعد و ضوابط متعین کرے گا کیونکہ مسلمانوں کے خون کا مسئلہ نہایت اہم ہے اسلئے دفاعی جہاد کے مقاصد اور شروط پوری کئے بغیر کسی بھی معرکے میں جنگجوؤں کو جھوٹک دینا ممکن نہیں ہے۔“

میں (مؤلف کتاب) کہتا ہوں: حزب اللہ اور اس کے لیڈر حسن نصر اللہ وغیرہ اپنے ٹی وی خطابات میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے جو نعرے لگاتے ہیں وہ سب پُر فریب نمائشی نعرے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے مثلاً وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے یہ نعرے لگاتے ہیں:

”اے اقصیٰ ہم تیری آزادی کے لئے آرہے ہیں۔“ ”چلو چلو القدس چلو۔“ ان نعروں کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود حسن نصر اللہ کا اپنا بیان ہے ایک انٹرویو کے دوران جب اس سے فلسطینیوں کے بارے میں اس کا موقف پوچھا گیا تو اس نے فلسطینیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”جب تمہیں ہماری ضرورت ہوگی تو ہم آجائیں گے اور بس اتنا ہی کافی ہے۔“

کیونکہ شیعی امامیہ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی منتظر کے ظہور تک کوئی جہاد نہیں ہے۔ لہذا اے سنی

مسلمان! خوب غور و فکر! شیعہ کے نزدیک جہاد دفاعی بھی ولی فقیہ کے فیصلے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور حزب اللہ کے ارکان اپنے فقیہ ولی کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ جب تک خامنہ ای انہیں حکم نہ دے دے وہ کوئی عمل کرنا جائز نہیں سمجھتے۔۔۔! پھر خوب غور و فکر کر لو اور پھر شیعہ مذہب کی اس روایت کو بغور پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رافضی شیعہ کون ہیں؟ اور کیا واقعی وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں؟

صحیفہ السجادۃ الکاملۃ کے صفحہ 16 پر ابو عبد اللہ علیہ السلام سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: ”ہم اہل بیت میں سے نہ کبھی کوئی شخص ظلم سے دفاع یا اپنا حق واپس لینے کے لئے نکلا ہے اور نہ نکلے گا حتیٰ کہ ہمارے امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے یہ کام کیا تو وہ سخت آزمائش کا شکار ہوگا اور اس کا نکلنا ہمارے اور ہمارے شیعہ کی نفرت میں اضافے کا باعث ہوگا۔“

2000ء میں اسرائیلی انخلاء کے بعد بنت جلیل میں ایک لاکھ شیعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا تھا: ”حزب اللہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لئے اسرائیل کے خلاف کسی بھی عسکری عمل میں شریک نہیں ہوگی۔“ (دیکھئے: الانباء اخبار کا 2000/5/27 کا شمارہ نمبر 8630، بحوالہ حزب اللہ رویۃ مغایرہ صفحہ 214) اسی لئے قومی امن کمیٹی کے جنرل بیکر ٹری حسن روحانی نے بیان دیا کہ ”اسرائیل نے جنوبی لبنان کے شیعہ کے علاقے سے انخلاء کر دیا ہے لہذا اب حزب اللہ کی مزاحمتی تحریک کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔“ اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ”حزب اللہ کی مزاحمتی تحریک کا تعلق صرف لبنان کی سر زمین کا دفاع ہے۔“ (حسن روحانی سے یہ وضاحتی بیانات ”الحیۃ اللندیۃ“ اخبار کو 2004/1/18ء کو ایک انٹرویو میں دیئے)

اب سوال یہ ہے کہ وہ فلسطین کہاں ہے جسے عنقریب حزب اللہ یہودی غاصبوں سے آزاد کرانے کی؟ لہذا۔۔۔۔۔ شیعی مذہب میں ایسے کسی جہاد کی گنجائش نہیں ہے جو مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے یا ان کی دفاعی ضروریات کے لئے کیا جائے۔

ایران کے وزیراعظم محمود احمد نژادی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ”ایران مغربی ممالک کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی صیہونی نظام حکومت کے لئے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔“ (دیکھئے: ”الشرق الاوسط“ شمارہ نمبر 10134، مورخہ 2006/8/27ء اور شمارہ نمبر 10136 مورخہ 2006/8/29ء)

کیا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا ہے؟

ایک اسرائیلی انٹیلی جنس افسر بیان کرتا ہے کہ اسرائیل اور لبنانی شیعہ کے درمیان تعلقات پُر امن علاقے کی شرط سے غیر مشروط ہیں۔ اسی لئے اسرائیل شیعہ عناصر کی خصوصی پشت پناہی کرتا ہے جس سے ان کے درمیان ایک طرح کا سمجھوتہ ہو گیا ہے کہ وہ فلسطینی جذبہ جہاد کو کم کر دیں گے جس سے حماس اور الجہاد کی داخلی امداد میں اضافہ ہوا ہے۔ (دیکھئے: یہودی اخبار "معاریف الیہودیه" 8 ستمبر 1997ء کا شمارہ)

یہ بیان اسرائیل اور لبنانی حزب اللہ کے خفیہ معاہدے کی توثیق کرتا ہے۔ اس کا اعتراف حزب اللہ کے سابق جنرل سیکرٹری صبحی الطفیلی نے بھی کیا ہے۔ (صبحی الطفیلی حزب اللہ کا سابق جنرل سیکرٹری تھا۔ یہ جماعت سے اس وقت الگ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ جماعت نہ صرف اپنے علاقہ مزاحمتی کردار کو چھوڑ کر ایرانی اور شامی مفادات کی محافظ بن گئی ہے بلکہ اسرائیل کی شالی سرحد کی چوکیدار بن بیٹھی ہے۔ حزب اللہ ہر اس مجاہد کو گرفتار کر لیتی ہے جو اس سرحد سے اسرائیل پر فزانی حملہ کرنا یا کروانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے: "بلاشبہ حزب اللہ اسرائیلی سرحد کی محافظ ہے۔" (دیکھئے: "الشرق الاوسط" 29 کا رجب 1424ھ بموافق 2003/9/25ء کا شمارہ نمبر 9067۔ اسی طرح New TV پر 2003ء کے اواخر میں "بلا رقیب" نامی پروگرام میں ان کا انٹرویو ملاحظہ کریں)

صبحی الطفیلی مزید کہتا ہے: "نوے کی دہائی میں ایرانی سیاست میں تبدیلی کے نمایاں آثار نظر آنے لگے تھے۔ پہلے تموز میں 1993ء میں سمجھوتہ ہوا۔ پھر نیدسان میں 1996ء میں اتفاق رائے طے پا گیا۔ ان سمجھوتوں میں طے ہوا کہ فلسطین میں موجود یہودیوں کو پُر امن رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس سمجھوتے میں ایرانی وزیر خارجہ بھی شریک ہوا۔ ان سمجھوتوں کے بعد اسرائیل نے لبنان سے فوجیں نکالنا شروع کر دیں کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تحریک ختم کر دی جائے گی۔ یہ تحریک سرحد پر رہے گی اور حملہ آور نہیں ہوگی۔ پھر مزید کہا: "میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہی حقیقت ہے کہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں مزاحمتی تحریک، مزاحمت سے نکل کر سرحدوں کی محافظ ہو کر رہ گئی ہے۔" (New TV پر "بلا رقیب" نامی پروگرام میں ان کا انٹرویو دیکھیں جو 2003ء کے اواخر میں نشر ہوا۔ اسی لئے اسرائیل جنوبی لبنان میں شیعہ اثرو نفوذ کی بھرپور حمایت کرتا ہے تاکہ یہ شیعہ آبادی اسرائیل پر شالی سرحد سے حملہ آور ہونے والے مجاہدین کے خلاف ڈھال بن سکے)

یروشلم پوسٹ کے 23 مئی 1985ء کے شمارے میں یہ بیان چھپ چکا ہے کہ "اسرائیلی مفادات

و مصالح سے غفلت درست نہیں ہے جو اس بنیاد پر قائم ہیں کہ باہم مل کر جنوبی لبنان کی حفاظت کی جائے گی اور اس علاقے کو اسرائیل پر حملہ کرنے والے ہر قسم کے خطرات سے خالی کیا جائے گا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل یہ بھاری ذمہ داری "اہل الشیعہ" کو سونپ دے۔" (بحوالہ کتاب "اہل الحکماۃ الفسطینیہ" صفحہ 162)

اس امر کی توثیق توفیق المدینی نے ان الفاظ میں کی ہے: "شیعہ کی تنظیم (اہل الشیعہ) نے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ فلسطینی مجاہدین کی تحریکوں کو جنوبی لبنان کی طرف جانے سے روکے تاکہ وہ اسرائیلی فوجوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکیں اور نہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں الجلیل مقام پر قائم اسرائیلی کالونیوں میں کارروائی کر سکیں۔" (بحوالہ کتاب "اہل و حزب اللہ فی حلیۃ المحاببات" صفحہ 83)

حزب اللہ کے سابق جنرل سیکرٹری صبحی الطفیلی نے بھی شیعہ کے اس کردار کا اعتراف کیا ہے وہ بیان کرتا ہے: "جو شخص حزب اللہ کے اس کردار کی تحقیق کرنا چاہے کہ اب یہ تحریک مزاحمت چھوڑ کر اسرائیلی سرحدوں کی چوکیدار بن گئی ہے۔ وہ اسلحہ اٹھائے اور کسی بھی سرحد پر چلا جائے اور یہودی دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرے تو ہم دیکھ لیں گے کہ حزب اللہ کے مسلح چوکیدار اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔" کیونکہ بہت سارے مجاہدین اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے گئے لیکن اب وہ اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ انہیں حزب اللہ کے مسلح افراد نے گرفتار کر کے اسرائیلی فوج کے حوالے کیا ہے۔" (New TV پر صبحی الطفیلی کا انٹرویو دیکھیں جو 2003ء کے اواخر میں "بلا رقیب" نامی پروگرام میں نشر کیا گیا)

اس لئے اسرائیل حزب اللہ کو ختم کرنے اور اس کی قوت کو تباہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ اس لئے نہیں کہ اسرائیل یہ کام کر نہیں سکتا بلکہ وہ اس لئے نہیں کرتا کیونکہ حزب اللہ ایک منظم جماعت ہے اور اس کے ختم ہو جانے سے اسرائیل کے خلاف سنی مسلمانوں کی تحریک منظم ہو جائے گی، اگرچہ بعض اوقات حزب اللہ اسرائیل کے خلاف تھوڑا بہت شور شرابہ کر بھی لیتی ہے۔ لیکن اسرائیل ہر حال میں سنی تحریک کو ابھر نے نہیں دینا چاہتا اس لئے وہ حزب اللہ کی بھرپور مدد کرتا ہے۔

ان کے اس باہمی تعاون کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسرائیلی مصلحت اس میں ہے کہ حزب اللہ باقی رہے اور حزب اللہ کی مصلحت اس میں ہے کہ اسرائیل باقی رہے (تاکہ اس کے خلاف نعرے بازی سے عام مسلمانوں کو مسلسل فریب دینا ممکن رہے۔)

لہذا شیعہ منصوبہ اگرچہ اسرائیلی امریکی یہودیوں کے لئے پریشان کن ہے لیکن یہ شیعہ منصوبہ یہودیوں کے ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کا انکار نہیں کرتا بلکہ شیعہ یہودیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر سمجھوتے کرتے ہیں جیسا کہ ایران نے افغانستان اور عراق میں کیا ہے۔ یا جس طرح ماضی میں حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتوں کے تحت مزاحمتی تحریک ختم کر دی تھی۔

لیکن سنی مسلمانوں کی مزاحمتی تحریک یہودیوں کے لئے نہایت خطرناک اور پریشان کن ہے کیونکہ وہ کسی قسم کے مذاکرات یا سودے بازی کے قائل ہی نہیں۔ اس بات کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی مثال اس کی ابتدا تھی اور فلسطینی جہاد اس کی انتہا ہے اور اب عراق میں بھرپور مزاحمتی جنگ جاری ہے۔ (اور سنی مجاہدین کسی قسم کا سمجھوتہ ماننے سے انکاری ہیں۔) (دیکھئے: انٹرنیٹ ویب سائٹ ”مفکرۃ الاسلام“ پر ولید نور کا مضمون ”الوعد الصادق نینھی بوهم کاذب“ مورخہ 2006/8/17۔ نیز ریح الحافظ کا انٹرویو ملاحظہ فرمائیں جس کا عنوان ہے ”لاحزب اللہ والمساحات العالیہ“ 2006/8/26)

حزب اللہ کی دوستی کن سے ہے؟

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رافضی عقیدے کی حامل حزب اللہ کی ولاء اور دوستی پہلے نمبر پر ایرانی رافضی حکومت کے ساتھ ہے پھر شیعہ یعنی نصیری حکومت کے ساتھ ہے۔ (ان کی باہمی ولاء اور محبت کی مثال یہ ہے کہ لبنانی حزب اللہ نے احواز کے سنی مسلمانوں کی قتل و غارت میں ایرانی انقلابی لشکر کا بھرپور ساتھ دیا تھا)

1- الراصد میگزین میں ایک مضمون چھپا ہے: (دیکھئے: ”الراصد“ میگزین کا شمارہ نمبر 34، ربیع الثانی 1427 ہجری اس شاعر تحقیقی مضمون کا عنوان ہے: ”شیعہ کی ولاء کس کے لئے ہے؟“ ہم نے اس سے صرف حزب اللہ کے متعلق ایک پیرا گراف لیا ہے۔ تفصیلی مضمون میگزین کے انٹرنیٹ سائٹ <http://www.alrased.net> پر دیکھیں) شیعہ کی ولاء اور محبت کس کے ساتھ ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ: ”تمام شیعہ حضرات پر خمینی کی ولایت کے زیر اثر حزب اللہ کی نشوونما ایران میں ہوئی۔ حزب اللہ کا نائب جنرل سیکرٹری نعیم قاسم بیان کرتا ہے: ”مومنوں کا ایک گروہ تھا۔ ان کے ذہن ایک عملی قاعدے کے لئے کھل گئے کہ ولایت فقیہ کے مسئلے کی مکمل پیروی ہونی چاہئے تاکہ تمام اسلامی دنیا کا قائد ولی فقیہ کو تسلیم کر لیا جائے۔ کوئی گروہ اور ملک اس کی ولایت سے الگ نہ ہو۔۔۔ لہذا مومنوں کا یہ گروہ جو نو افراد پر مشتمل تھا، ایران گیا اور امام خمینی کو ملا۔ اور اسے لبنانی حزب اللہ کی تائیس کے

منصوبے سے آگاہ کیا۔ خمینی نے اس منصوبے کی حمایت کی اور برکت کی دعا کی۔“ (دیکھئے کتاب: ”المقاومة فی لبنان“ مؤلفہ: آمین مصطفیٰ، دارالحدادی، صفحہ 425)

2- ”الشراع“ میگزین 14 اگست 1995ء کے شمارے میں ڈاکٹر غسان عزیزی کی کتاب حزب اللہ کے صفحہ 34 کے حوالے سے لکھتا ہے کہ حزب اللہ کے دو قائد ایرانی ہیں۔

3- یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ لبنانی حزب اللہ کا سربراہ حسن نصر اللہ جو کہ لبنانی شیعہ کا ایک اہم لیڈر بھی ہے وہ ایرانی علی خامنہ ای کا وکیل بن جائے۔ اور اس کی متعدد تصویریں شائع ہوئی ہیں جن میں وہ علی خامنہ ای کے ہاتھ چوم رہا ہے حالانکہ لبنانی شیعہ کے اپنے لیڈر موجود ہیں جیسے محمد حسین فضل اللہ وغیرہ۔

ان حالات میں اگر ایران اور لبنان میں اختلاف ہو جائے اور نوبت جنگ تک پہنچ جائے جیسا کہ آج کل حالات و واقعات سے ایسا نظر بھی آ رہا ہے تو حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی ولاء کن کے لئے ہوگی؟ لبنانی حکومت کے ساتھ یا ایران کے ساتھ؟

4- ”اہل الشیعہ“ اور حزب اللہ کی تاریخ کے بیان میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ باہمی اختلافات کی صورت میں ایرانی قیادت کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے۔ (وضاح شرادہ کی کتاب ”دولہ حزب اللہ“ کا صفحہ 119 دیکھیں)

5- مارچ 1982ء میں اہل الشیعہ تنظیم اپنے چوتھے اجلاس میں یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ ایرانی اسلامی انقلاب کا آٹھ انگ ہے۔ (حوالہ سابق ملاحظہ کریں)

6- حزب اللہ کے ولایت فقیہ کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ایرانی محقق ڈاکٹر مسعود اسعد الہی اپنی کتاب ”الاسلامیون فی مجتمع تعددی“ کے صفحہ 321 پر لکھتا ہے: چونکہ خمینی کی ولایت فقیہ کی ملک یا سرحد کے اندر منحصر نہیں ہے۔ لہذا ہر مصنوعی غیر طبعی سرحد جو ولایت فقیہ سے منع کرے وہ سرحد غیر شرعی شمار ہو گی۔ اسی لئے لبنانی حزب اللہ، وسیع تر عالمی درجے کی حزب اللہ کی ایک شاخ کے طور پر عمل کر رہی ہے۔“

مذکورہ بالا آراء سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ حزب اللہ ولی فقیہ کے ہر حکم کے نفاذ کے لئے ہر وقت مستعد رہتی ہے۔ (جس سے ثابت ہوا کہ حزب اللہ کی ولاء اور محبت صرف ایرانی حکومت کے ساتھ ہے نہ کہ اللہ اور اس کے دین کے لئے۔)

عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کے

ساتھ حزب اللہ کے کیسے تعلقات ہیں؟

جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں کہ حزب اللہ سنی مسلمانوں کے ساتھ تھے پر عمل کرتے ہوئے تعلقات استوار رکھتی ہے۔ اسی لئے حزب اللہ کے لیڈر اپنے خطابات میں پُر فریب مگر دلکش نعرے لگاتے ہیں کہ وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لئے لڑیں گے۔ سادہ لوح سامعین ان نعروں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی شیعہ حزب اللہ مسلمان علاقوں کو غاصب یہودیوں سے آزاد کرانے کے لئے لڑ رہی ہے۔ فلسطینی مجاہدین حماس اور الجہاد الاسلامی کے بعض لیڈر بھی دھوکہ کھا گئے تھے۔ لیکن ایرانی شیعہ حکومت کے ساتھ دلاء کا رشتہ جوڑنے والی حزب اللہ کسی بھی شخص کو اپنے ساتھ اس وقت تک نہیں ملائی جب تک وہ اپنے صحیح عقیدے سے دست بردار ہو کر شیعہ عقیدے کا اظہار نہ کر دے مثلاً خمینی کی تعریف و توصیف کرنا یا ایرانی نظام حکومت کو داد دینا وغیرہ۔

اپنے عقیدے کی بربادی کے بعد ہی یہ دھوکہ کھانے والے چند ظاہری فوائد کو حاصل کر پاتے ہیں۔ جو لبنانی حزب اللہ انہیں دیتی ہے۔

جبکہ باقی اسلامی ممالک میں حزب اللہ صرف اور صرف رافضی شیعہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا رشتہ جوڑتی ہے مثلاً ایران، عراق اور لیبیہ۔ فلسطینی ممالک میں شیعہ کی دلاء صرف شیعہ ہے یا چند سادہ لوح سنی مسلمانوں سے جو رافضی شیعہ کی تاریخ اور عقائد سے ناواقف اور ان کی چکنی چڑی باتوں میں آ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات درست فرمائے اور رافضیوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین۔

حزب اللہ کے زیر تسلط لبنانی

سنی مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟

لبنانی سنی مسلمان بڑی ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کے دشمن رافضی اور نصیری فرقے ہیں اور یہ دونوں احباش فرقے کی ہر طرح کی مدد کرتے ہیں جو سنی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور

ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لئے طرح طرح کے شکوک و شبہات کو پھیلا رہا ہے۔ اس پر مستزاد رافضی حزب اللہ کا ظالمانہ تسلط ہے جس کی مدد ایران کر رہا ہے۔ مثلاً رافضی شیعہ نصیری اور احباش فرقے کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنی کتابیں مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ جن میں ان فرقوں کے عقائد کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے جبکہ سنی مسلمان ان کتابوں کا علمی رد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی کتابیں ضبط کر لی جائیں گی، اگرچہ ان کتابوں میں رافضی عقائد کی تردید کے لئے فقط اشارہ کیا گیا ہو۔

جیسا کہ اہل سنت کی یہ کتاب ضبط کر لی گئی ”لذم للاربع“ (فیصلہ اللہ کا ہے، پھر تاریخ کا)۔ اس کتاب کے نشر کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس پر ہنگام پر لیس نے علامہ آلوسی کی کتاب ”صوب العذاب علی من سب الاصحاب“ (صحابہ کرام کو گالیاں بکنے والوں پر اللہ کا عذاب) شائع کی انہیں شدید دھمکیاں دی گئیں کہ اگر انہوں نے یہ کتاب دوبارہ چھاپی تو ان کا مکمل پریس جلا دیا جائے گا۔

حزب اللہ کے جابرانہ تسلط کی وجہ سے لبنانی سنی مسلمان قربانی کا بکرا بنا دیئے گئے ہیں جب بھی کسی علاقے میں کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے یا دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے تو اس کا الزام سنی مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ان سے تعیش کی جاتی ہے بلکہ بعض اوقات بغیر کسی ثبوت کے سنی مسلمانوں کو کئی کئی سال قید کی سزا سنائی دی جاتی ہے۔ لبنان کے حالات میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ مظلوم سنی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

لبنان کے علاقے جبل کے مفتی ڈاکٹر محمد علی الجوزو نے ”فجر الاسلام“ میگزین میں اللہ تعالیٰ سے حزب اللہ کے ظلم و ستم سے شکایت کی ہے اور اللہ سے فریادری کی درخواست کی ہے کہ یہ ظالم اہل سنت کی مساجد پر بھی قبضہ جمانا شروع ہو گئے ہیں۔ جنوب لبنان میں حزب اللہ کے غلبے کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں: ”بظاہر حزب اللہ کے غنڈوں کا یہ غلبہ جنوب اور جبل کے علاقوں میں سنی مساجد پر قبضہ ہی کی ایک کڑی ہے۔ وہ اس قسم کی متعدد کارروائیاں کر چکے ہیں جن میں سب سے آخری کارروائی جیہ کے علاقے میں یونس علیہ السلام کے نام پر بنی مسجد ”مسجد النبی یونس“ پر ان کا قبضہ ہے۔

الجیہ شہر میں حزب اللہ، اہل الشیعہ تنظیم کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور دونوں شیخ عبدالامیر قبلان کی معیت میں سنی اوقاف پر قبضہ جمارہے ہیں۔ شیعہ کی مجلس اعلیٰ نے الجیہ شہر میں شیعہ کا محکمہ اوقاف بنا دیا

ہے۔ پھر اس محکمے نے بلد یہ کے دفتر میں درخواست دے دی ہے کہ الجزیہ میں موجود تمام سنی اوقاف شیعہ کی ملکیت ہیں لہذا سنی مسلمانوں سے یہ اوقاف واگزار کر کے شیعہ کے حوالے کئے جائیں۔ یہ اوقاف چودہ ہزار مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہیں جو ساحل سمندر پر واقع ہے۔ اس اوقاف میں مسجد البنی یونس، ایک سرکاری مدرسہ اور ایک ہائی سکول اور قبرستان وغیرہ شامل ہیں۔

یہ مقدمہ لبانی عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس دوران اوقاف کی زمینوں پر ایک تنہی بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ اس بورڈ کی وجہ سے شیعہ اوقاف کے ارکان سنی مسلمانوں کو ان کے اوقاف اور مسجد کے سلسلے میں پریشان کر رہے ہیں۔ سنی مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر میں اضافہ کرنے اور اسے نئے سرے سے تعمیر کرنا شروع کیا تو شیعہ نے عدالت سے فیصلہ لے کر یہ تعمیر روکادی اور عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ سنی مسلمان مسجد کی تعمیر خراب کر رہے ہیں۔

اس طرح یہ مقدمہ ایک مذہبی مقدمہ بن گیا جس میں شیعہ نے الجزیہ میں سنی مسلمانوں کو مزید اشتعال دلانے کے لئے لاؤڈ سپیکر اتار کر مسجد کے فرش پر رکھ دیئے اور اپنے مذہب کے مطابق اذان کہہ ڈالی جس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں کہ ”وَ اَنْ عَلَيْنَا بِالْحَقِّ وَلِيُّ اللّٰهِ“

”بے شک علی سچے ولی اللہ ہیں۔“

یہ کام علاقے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیا گیا ہے۔

اس کے بعد شیعہ نے مذہبی رواداری اور باہمی ادب و احترام کی ہر حد پھلانگتے ہوئے مرکز الافتاء ولاقاف پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نہایت گھٹیا اسلوب میں اپنے حسد و کینے کا اظہار بدترین الفاظ میں کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کو بھڑکایا جاسکے۔

باوجود اس کے کہ متعدد ذمہ داران نے اس فساد کو ختم کرنے اور مسئلے کو حل کرنے کے لئے اپنی خدمات پیش کیں لیکن شیعہ مجلس، حزب اللہ، اہل الشیعہ اور عبداللہ میر قتلان کی سربراہی میں شیعہ کی مجلس اعلیٰ سنی مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے میں مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ سب گروہ مل کر علاقے کی تاریخی حیثیت کو مسخ کرنے اور الجزیہ کے نوجوانوں کو فسادات میں جھونکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔

یہ بات درست ہے کہ سنی اسلامی اوقاف کی انتظامیہ کے پاس زمینوں کے ہر قسم کے کاغذات اور

تاریخی دستاویزات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ الجزیہ میں اوقاف النبی یونس کے متولی سنی مسلمانوں کا محکمہ اوقاف ہے لیکن یہ مسئلہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ حزب اللہ سنی نوجوانوں کو مشتعل کرنے کے لئے مسلسل کوششیں کر رہی ہے تاکہ ان کا باہمی ٹکراؤ ہو جائے خواہ اس کا کوئی سبب ہو یا نہ ہو۔ (دیکھئے: ”فجر الاسلام“، میگزین میں جبل لبنان کے مفتی جناب محمد علی الجوزوکا انٹرویو)

لبنان میں اہل سنت کی مساجد پر قبضہ جمانے کی متعدد کارروائیاں کی گئیں ہیں اور بعض مساجد پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ الجزیہ کی مسجد کے علاوہ بعلبک میں مسجد ”الظاہر بیہرس“ پر قبضہ کر کے اس کا نام ”مسجد رأس الحسین“ (حسین کا سر) رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح صور کے قریب المعشوق کے علاقے میں مسجد علی بن ابی طالب پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام مسجد الوحدة الاسلامیہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح صور کے قریبی علاقے میں مسجد الشمر بجا کوئی مسلمانوں سے چھین کر اس کا نام مسجد الکافم رکھ دیا گیا ہے۔

صور کی قدیمی مسجد ”مسجد الفاروق عمر“ کے بارے میں شیعہ اپنے اجلاسوں اور محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد بھی شیعہ کی ہے اور سنی مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے دوران اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سارا پراپیگنڈہ اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں آس پر بھی ہاتھ صاف کئے جاسکیں۔

اس طرح یہ بیان کرنا بھی بر محل ہو گا کہ شیعہ لبنان کے اہم شہروں پر تسلط کے نہایت خبیث اور خطرناک خفیہ منصوبوں پر عمل پیرا ہیں تاکہ ان شہروں کو سنی شیعہ شہروں میں تبدیل کیا جاسکے۔ جیسا کہ ایک صدی کی مسلسل کوششوں سے وہ صور شہر کو مکمل طور پر شیعہ شہر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ان کی نظریں دوسرے شہروں جیسے صیدا اور بیروت پر جمی ہوئی ہیں۔

ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شامی حکومت بھی لبنانی سنی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ یہ سارا گھناؤنا کاروبار دیگر عرب حکومتوں کے سامنے نہایت ڈھٹائی سے ہو رہا ہے اور وہ اس خطرناک منصوبے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اس وقت شیعہ کو ہر قسم کی مالی اور اسلحہ کی امداد سے مضبوط بنایا جا رہا ہے جبکہ سنی مسلمانوں کو ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت مارا جا رہا ہے جیسا کہ فلسطین میں ہو رہا ہے وہاں سنی مسلمانوں کو مار پیٹ کے ذریعے ان کے مخصوص یکپوں تک محدود رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس دوران تحریک المرابطین، تحریک التوحید وغیرہ کا بزور بازو خاتمہ کر دیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کی

عسکری تنظیم کو سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟

یہ ہے حزب اللہ کا حقیقی چہرہ کہ وہ سنی مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ جمار ہی ہے لیکن صد افسوس! کہ بعض سنی مسلمانوں کی آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں وہ حزب اللہ کی نام نہاد فتح پر شادمانی کے شامیانے بجا رہے ہیں اور اسے اسلام اور مسلمانوں کی عظیم فتح قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ان بے چاروں کو یہ بھی علم نہیں کہ حزب اللہ مسلمان ممالک میں ایرانی شیعہ منصوبوں پر عمل پیرا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کا قیام دیگر عرب ممالک میں ایران کے داخلے کا ایک دروازہ ہے۔ بھلا ایران کے علاوہ کون ہے جو حزب اللہ کے بھاری اخراجات برداشت کر رہا ہے؟

لبنانی حکومت اور دیگر اسلامی حکومتوں

کے بارے میں حزب اللہ کا موقف کیا ہے؟

محمد نعمانی کی کتاب ”الغیبة“ کے صفحہ 72 پر لکھا ہے: ”مالک بن اعین جھنسی، امام ابو جعفر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہمارے امام القائم (مہدی منتظر علیہ السلام) سے پہلے بلند ہونے والے ہر جھنڈے کا مالک طاغوت ہے۔“

جبکہ ”بحار الانوار“ نامی کتاب میں ایک اور روایت ہے۔ امام الصادق علیہ السلام کہتے ہیں: ”اے مفصل! امام القائم علیہ السلام سے پہلے کی جانے والی ہر بیعت کفر و نفاق اور دھوکے پر مبنی بیعت ہے۔ بیعت کرنے والے شخص اور بیعت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔“ (دیکھئے مجلسی کی کتاب ”بحار الانوار“ 8/53)

اس لئے حزب اللہ سوائے شیعہ اثنا عشری حکومت کے کسی بھی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری سمجھتی ہے اور اگر بظاہر ان کی تابعداری کرنی پڑے تو وہ تقیہ پر عمل کرتے ہوئے منافقانہ دھوکہ دہی سے کام لے گی۔

شیعہ کی کتاب ”وسائل الشیعہ“ میں ابو عبد اللہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خط لکھا: ”اہل باطل کے ساتھ ظاہری طور پر خوشگوار تعلقات قائم رکھو، ان کے ظلم و ستم برداشت کرو، خبر انہیں گالی گلوچ مت کرنا۔ اپنے باہمی تعلقات میں اپنے دین پر عمل کرو جب تم ان کے ساتھ مجلس قائم کرو،

ان کے ساتھ خوشی و غم کی تقریبات میں شرکت کرو اور جب باہمی گفتگو میں نوک جھوک ہو تو تم تقیہ پر عمل کرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اسے اہل باطل کے ساتھ تعلقات میں استعمال کرو کیونکہ تمہارے لئے ان کی مجالس میں جانا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا اور گفتگو کرنا ضروری ہے۔“ (دیکھئے: وسائل الشیعہ، 471-470/11)

الحر العالمی نے ایک خصوصی باب ذکر کیا ہے جس کا عنوان ہے: ”عوام کے ساتھ تعلقات میں تقیہ کرنا واجب ہے۔“ ابو بصیر، ابو جعفر سے بیان کرتا ہے کہ ”عوام سے ظاہری اچھے تعلقات قائم رکھو اور اندر سے ان کی مخالفت کرو جبکہ بیچوں جیسی حکومتیں قائم ہوں۔“ (دیکھئے: وسائل الشیعہ، 471-470/11) اسی کتاب میں لکھا ہے: (471/11) باب: سلطان کی اطاعت تقیہ کرتے ہوئے واجب ہے پھر اس نے متعدد شیعہ روایات ذکر کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ سلاطین کے ساتھ تقیہ کرتے ہوئے معاملات نبھانا واجب ہے اور اپنے معاملات میں باطنی حالات کے برخلاف عمل کرنا ضروری ہے۔

اسی لئے شیعہ کا مشہور عالم محمد حسین فضل اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: ”ماضی میں اسلامی حکومتیں صحیح اسلامی قواعد کے مطابق حکومت نہیں کرتی رہیں، لہذا ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ صحیح اسلامی، عادل، آزاد حکومتیں نہیں تھیں جیسے کہ حکومت عثمانی ہے۔“ (دیکھئے: احمد خضر کے مجلہ المجموع کے شمارہ نمبر 953، صفحہ نمبر 45 پر سلسلہ وار مضمون: اسلام اور امریکی کافر لیں) گزشتہ صفحات میں حزب اللہ کی ذیلی تنظیموں کے تعارف میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ حزب اللہ کے نزدیک تمام اسلامی حکومتیں طاغوت ہیں ان کا تحتہ اللہ واجب ہے تاکہ ان ممالک میں ایرانی صفوی شیعہ نظام کے ماتحت شیعہ نظام حکومت قائم کیا جاسکے۔

اہل سنت کی کثیر تعداد حزب اللہ کے فریب میں کیسے پھنس گئی

اور اس کے جھوٹے دعوؤں کی تصدیق کیونکر کی؟

میرے خیال میں اہل سنت کے حزب اللہ کے پُر فریب جال میں پھنسنے کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں، جن میں اہم ترین درج ذیل ہیں:

1- لاعلمی: اہل سنت کی اکثریت رافضی شیعہ کے عقائد سے ناواقف ہے، رافضی اپنے آئمہ کی شان میں غلو کرتے ہیں، قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں۔ صحابہ کرام، اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کو کافر قرار

دیتے ہیں۔ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے سوا تمام مسلمان فرقوں کو کافر کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف شیعہ امامیہ نجات یافتہ فرقہ ہے باقی سب جہنمی ہیں۔ (اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لئے عبد اللہ الموصلی کی کتاب ”حسنى لا نفسخ دع“ (تا کہ ہم شیعہ سے دھوکہ نہ کھائیں) کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر دے، یہ کتاب اپنے موضوع پر بہترین معلومات کا ذخیرہ ہے)

2- تقيہ: حزب اللہ نے تقيہ پر بڑی مہارت کے ساتھ عمل کیا ہے۔ انہوں نے تقيہ کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے حتیٰ کہ مسلمان ان کے پُر فریب نعروں میں پھنس گئے۔ شیعہ کے نزدیک تقيہ کی تعریف یہ ہے، شیعہ کا علامہ المفید بیان کرتا ہے: ”تقيہ یہ ہے کہ حق کو چھپا کر، اپنے عقیدے کا اظہار کئے بغیر، مخالفین کی دشمنی کو پردہ راز میں چھپا کر معاملات کرنا، انہیں علانیہ حق نہ بتانا تاکہ دین و دنیا کے نقصانات سے بچا جاسکے۔“ شیعہ کا ایک اور عالم جوشہید اول کے نام سے معروف ہے وہ تقيہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے: ”لوگوں کے ساتھ بظاہر رواداری کا سلوک کرنا اور جن امور کو وہ ناپسند کرتے ہیں انہیں ترک کر دینا تاکہ لوگوں کے فتنے سے بچا جاسکے۔“ (دیکھئے: مہدی عطار کی کتاب: ”الشفیہ منہج اسلامی واع“ کا صفحہ 16) تقيہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو حزب اللہ نے سنی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس سے بہت سارے سنی مسلمان حسن نصر اللہ کے پُر فریب گمراہ کن نعروں کو تسلیم کر لیتے ہیں جو وہ ٹیلی وژن پر آ کر لگاتا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کر کے دم لیں گے۔ اس طرح وہ اپنی ہر تقریر میں فلسطین اور یہودیوں کا تذکرہ ضرور کرتا ہے جس سے سادہ لوح سنی مسلمانوں کو اس کی باتوں کا یقین ہونے لگتا ہے۔

3- ذرائع ابلاغ کا کردار: ذرائع ابلاغ نے حزب اللہ کو بڑی ہیرو جماعت بنا کر پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں حزب اللہ اپنے سیٹلائٹ چینل ”المنار“ کا بھرپور استعمال کرتی ہے۔ یہ چینل دن رات حزب اللہ اور اس کے لیڈر کی تصویر کشی میں مصروف رہتا ہے۔ حتیٰ کہ عوام میں حزب اللہ مجاہدین اسلام کی جماعت سمجھی جانے لگی ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں کی آزادی اور یہودیوں سے مسلمان علاقوں کی واپسی ہے۔ اس طرح حزب اللہ اپنا اصلی مکروہ چہرہ چھپانے میں کامیاب ہو گئی ہے جو کہ لبنان اور عالم اسلام میں ایرانی خیمہ انقلاب کو برپا کرنے کی خفیہ سازشیں کر رہی ہے۔

کیا شیعہ نے کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کا فریضہ ادا کیا ہے؟

رافضی شیعہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا ہتھیار اور ان کی ملی وحدت میں زہر آلود خنجر کی حیثیت ہی رکھتے ہیں اور آج تک ان کا کردار ایک جیسا ہی ہے۔ عیسائی ہمیشہ سے اسلامی حکومتوں کو ختم کرنے کے لئے انہیں استعمال کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہم تمام شیعہ رافضیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک شیعہ لیڈر کا نام بتادیں جس نے کوئی ملک یا علاقہ فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیا ہو؟

امت اسلامیہ کے خلاف شیعہ کی بدترین خیانتیں

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رافضی شیعہ کی دینی ولاء اور محبت ”قم“ کے مذہبی لیڈروں کے ساتھ ہے اور ان کی سیاسی وابستگی صرف اور صرف حکومت تہران کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے ان زہریلے کیڑوں کے اقوال پڑھے سنے ہوں وہ یہ تلخ حقیقت پالیتا ہے۔ (اس بات کی اہم ترین توثیق مصری صدر نے عربی چینل کو 2006/4/8 کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کی۔ مصری صدر کہتے ہیں کہ شیعہ کی ولاء اور دوستی ایران کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اردن کے بادشاہ عبد اللہ نے بھی شیعی ہلال احمر کے قیام سے ڈرایا ہے۔ انہوں نے شیعی ہلال احمر کے قیام پر خبردار کیا جو اپنی کارروائیاں عراق میں کر رہا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کی شکل میں عمل پیرا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ جناب سعود فیصل نے بھی عراقی معاملات میں ایرانی دخل اندازی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے) جبکہ یہودیوں کے وزیر اعظم شیرون نے ایک مذاکرے کے دوران واضح اعلان کیا کہ مجھے آج دور دور تک اسرائیل کا دشمن کوئی شیعہ دکھائی نہیں دیتا۔“ (دیکھئے: مذاکرات شیرون، صفحہ 583)

شیرون کے اس اعلان میں ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف سخت ترین فوجی ایکشن کیوں نہیں لیتا جیسا کہ وہ مجاہد تنظیم حماس کے لیڈروں کے خلاف پوری دنیا میں سخت گیر رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ اسرائیل کی حماس کے خلاف درندگی کی مشہور ترین مثالیں شیخ احمد یاسین، ڈاکٹر عبد العزیز الرئیس، یحییٰ عیاش کے خلاف بھرماندہ حملے ہیں جس میں یہ قائدین جام شہادت نوش فرما گئے۔ اسی طرح اسرائیل نے ڈاکٹر خالد مشعل کو بھی قتل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی

رضا اور خوشنودی کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین

میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا بلکہ شیعہ کی بدترین خیانتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور جو حضرات تفصیل کے خواہش مند ہوں ان کے لئے تفصیلات کے مصادر اور مراجع ذکر کروں گا۔ لیجئے شیعہ کی بدترین، تاریخی، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف خیانتوں کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔

- 1- شیعہ نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف خیانت کی تو انہوں نے ان کی شدید مذمت کی اور ان کے افعال و کردار سے براءت کا اعلان کر دیا۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیعہ کی مذمت میں خطبہ دیکھیں: "نهج البلاغة" ت: محمد عبده، صفحہ 148، خطبہ نمبر: 69)
- 2- حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خیانت ڈھکی چھپی نہیں، ایک شیعہ نے ان کی ران میں زہر آلود خنجر مارا (جس سے وہ بعد میں فوت ہو گئے) اور شیعہ نے حضرت حسن کو "مذل المومنین" (مومنوں کو رسوا کرنے والا) کا لقب دیا۔ (کیونکہ انہوں نے اپنے نانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروادی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی۔ جو شیعہ کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔) (دیکھئے: مجلسی کی کتاب "محارر الانوار" 24/44۔ اور امام طبری کی کتاب "لادلائل الامامة" صفحہ 64)
- 3- حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ان کی خیانت عالمی شہرت یافتہ ہے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے شمار خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی، جب آپ رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر کوفہ پہنچ گئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی لیکن پھر انہی کے خلاف ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ (دیکھئے: شیعہ مؤلف کی کتاب "اعيان الشيعة" 32/1، مؤلف: محسن امین) حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بدعہدی اور خیانت معلوم ہونے پر انہیں بدعادی تھی۔ (دیکھئے: مفید کی کتاب "الارشاد" 110/2-111)
- 4- ہارون رشید کے عہد حکومت میں شیعہ وزیر علی بن یقطین نے بددیانتی کرتے ہوئے پانچ سو سنی مسلمانوں کو قید خانے کی چھت گرا کر قتل کر دیا۔ (دیکھئے: نعمت اللہ جزائری کی کتاب "الانوار النعمانية")
- 5- فاطمیوں کا عہد حکومت اہل سنت کے مذہب کو مٹانے اور شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت کے لئے

خیانتوں اور بددیانتیوں سے بھرپڑا ہے۔ (تفصیل کے لئے عماد حسین کی کتاب "نحیسات الشيعة وأثرها في هزائم الامة الاسلامية" صفحہ 47 دیکھیں)

- 6- قرامطہ نے حجاج کرام کو قتل کر کے ان کے اموال لوٹ لئے اس طرح وہ حاجیوں کے خون اور مال کو اپنے لئے حلال سمجھ کر لوٹتے رہے۔ (تفصیل کے لئے مذکورہ بالا کتاب کا صفحہ 63 ملاحظہ کریں)
- 7- بوہری فرقے کی خیانتیں اور سنی مسلمانوں پر ان کا ظالمانہ تسلط۔ (حوالہ سابق کا صفحہ 73 دیکھیں)
- 8- رافضی وزیر مؤید الدین ابی طالب محمد بن أحمد عظمی نے سخت بددیانتی کرتے ہوئے تاتاریوں کو عباسی حکومت کے دار الحکومت بغداد میں داخل ہونے پر مدد دی اور مسلمانوں کے قتل و غارت میں شریک ہوا۔ (تفصیل کے لئے عماد حسین کی کتاب "نحیسات الشيعة وأثرها في هزائم الامة الاسلامية" کا صفحہ 81 دیکھیں۔ نیز شیخ سلمان عودہ کی کتاب "دور الشيعة في سقوط بغداد على أيدي التتار" ملاحظہ کریں)
- 9- جب تاتاری دمشق میں داخل ہو گئے تو رافضی شیعہ نے ان کی اطاعت قبول کر کے ان کی حکومت میں خدمات انجام دیں۔ (تفصیل کے لئے شیخ عماد حسین کی مذکورہ بالا کتاب کا صفحہ 92 دیکھیں)
- 10- ہلاکو جب حلب میں فوجیں لے کر داخل ہوا اور اس نے بے شمار مسلمان شہید کر دیے تو اس دوران شیعہ رافضہ نے ہلاکو کی فرمانبرداری اختیار کر لی اور اس کے خلاف جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ (حوالہ سابق کا صفحہ 97 دیکھیں)
- 11- نصیر الدین الطوسی رافضی نے سنی مسلمانوں کے قتل و غارت میں بھرپور گھناؤنا کردار ادا کیا۔ (حوالہ سابق کا صفحہ 101 ملاحظہ فرمائیں) مسلمانوں کے اموال قبضے میں لے لئے اور ان کی فکری اور نظریاتی میراث کو ختم کر کے رکھ دیا۔
- 12- شیعہ کی خیانتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے امت اسلامیہ کے عظیم مجاہد اور ہیرو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کوششیں کیں۔ (اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرانے کا شرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس نے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرایا۔ لیکن یہ دونوں عظیم ہستیاں شیعہ امامیہ کے نزدیک کافر ہیں۔ تفصیل کے لئے عماد حسین کی کتاب کا صفحہ 109 دیکھیں)
- 13- شیعہ نے سنی مسلمانوں کی سلاطینہ حکومت کو ختم کرنے کے لئے عیسائیوں سے مکمل تعاون کیا اور ان

کے خفیہ ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ (مذکورہ بالا کتاب کا صفحہ 117 دیکھیں)

14- شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کی تنظیم ”اہل الشیعہ“ لبنان میں عیسائیوں کے ساتھ مل کر سنی مسلمانوں کے خلاف بدکرداری میں ملوث ہے۔ (حوالہ سابق کا صفحہ 145 دیکھیں)

15- صفوی شیعہ حکومت نے عثمانی حکومت کی یورپ میں فتوحات کا بائیکاٹ کیا اور عثمانی حکومت کے خلاف عیسائیوں کے ساتھ مل کر سازشوں کے کئی جال بنے۔ (دیکھئے کتاب: ”الصفویون والدولة العثمانیة“ مؤلفہ: علوی بن حسن عطرجی)

16- شیعہ امامیہ غلطی ممالک میں بے شمار خیانتوں کی مرتکب ہے جیسا کہ وہ عراق میں عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے سنی مسلمانوں کے خلاف مجرمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور اس میں ان کے علماء جیسے سیتانی اور الحکیم ہیں، ان کی مکمل حمایت انہیں حاصل ہے۔ (دیکھئے: عماد حسین کی کتاب، خیانتات الشیعہ..... صفحہ 167)

امریکی سفیر اور عراق میں امریکی حاکم پال بریر کی کتاب ”عراق میں فیصلہ کن سال“ میں شیعہ کے گھٹاؤ نے کردار کے متعلق بعض نہایت خطرناک اعترافات شامل ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ کس طرح عراقی تباہی اور

فلکست میں شیعہ امامیہ نے عیسائیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ (حوالہ سابق صفحہ 75)

پال بریر لکھتا ہے: ”ابھی تک بہت سارے شیعہ امریکیوں پر سخت غضبناک ہیں کہ وہ عراق میں قتل و غارت بند نہیں کر رہا لیکن اس کے باوجود شیعہ قائدین مثلاً آیت اللہ العظمی السیستانی وغیرہ نے اپنے

بیروکاروں کو عیسائی اتحاد کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ تعاون عراق کو آزاد کرانے کی ابتدا سے ابھی تک جاری ہے اور ہم بھی ان کے تعاون کو کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔“

اسی طرح عراق میں اسلامی انقلاب کی مجلس اعلیٰ کے لیڈر عبدالعزیز الحکیم کے بارے میں لکھتا ہے:

”مجھے عبدالعزیز الحکیم نے کہا جبکہ وہ اپنی رنگین عینک سے مجھے دیکھ رہا تھا: جناب سفیر محترم! آپ نے فرمایا ہے کہ عنقریب اس نئے لشکر کی قیادت فوجی افسر کریں گے۔ تو وہ افسر کون ہوں گے؟

میں نے اس کا عربی لقب لے کر کہا: جناب میرا وعدہ ہے کہ پہلے لشکر کا قائد شیعہ ہوگا..... یقیناً امریکی اتحادی فوجوں کے سربراہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ (دیکھئے کتاب کا صفحہ 80)

پال بریر مزید لکھتا ہے کہ السیستانی امریکی افواج کا بڑا قریبی ساتھی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ

اعلامیہ امریکی فوج کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اس لئے امریکی لیڈر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کی امریکی خدمات پر خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ (دیکھئے امریکی سفیر کی کتاب کا صفحہ 213)

عراق پر قبضہ کے فوری بعد آیت اللہ العظمیٰ نے شیعہ کے مخصوص ٹی وی چینل پر اعلان کیا کہ وہ امریکی اتحاد کے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ کارروائیوں میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اس

پر دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ میں اس کے ساتھ خصوصی انفرادی میٹنگ کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس میٹنگ میں تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ السیستانی یقیناً عالم اسلام اور عالم عرب کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اس لئے یہ

ممکن ہی نہیں کہ وہ اعلانیہ طور پر امریکی غاصب فوجوں کے ساتھ تعاون کر سکے۔ 1920ء کی کچھ تلخ یادیں بھی موجود ہیں حالانکہ وہ ان میں شریک ہی نہیں تھا۔ اس لئے اسے دو جانب کا خیال رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اسے

مقتدری الصدر جیسے جذباتی احق سے بھی بچنا ہے اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ لیکن بہر حال السیستانی ہمارے ساتھ کام جاری رکھے گا اور ہم اہداف باہم تقسیم کر کے حاصل کریں گے!!

رافضہ کے نفاق اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی اور دھوکہ دہی کو مزید سمجھنے کے لئے پال بریر کا یہ بیان پڑھیں: ”وہ کہتا ہے: جس دوران عربی اور مغربی ذرائع ابلاغ السیستانی کے امریکی اتحاد کے ساتھ

اختلاف اور علیحدگی کی خبریں نشر کر رہے تھے۔ عین اس وقت میں اور السیستانی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے شہری معاملات کے انتظام و انصرام میں مصروف تھے۔ عراق میں امریکی اتحادی فوجوں کے ساتھ السیستانی کا

یہ تعاون پورا عرصہ جاری رہا۔

موسم گرما کی ابتدا میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے جب السیستانی نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں نے امریکی اتحاد کے ساتھ کسی دشمنی کی بنا پر اپنے موقف کا اعلان نہیں کیا بلکہ آیت اللہ کا خیال ہے کہ اتحادی فوجوں

کے ساتھ سرعام تعاون و اتحاد کی بجائے خفیہ دوستانہ تعلقات زیادہ مفید ہیں اور ہماری مشترکہ کوششوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ اگر اعلانیہ اتحاد کیا گیا تو مسلمانوں کے بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارا

اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہم اسی طریقے سے آپ سے تعاون کریں گے جیسے بے شمار شیعہ اور کمیونسٹ سنی کر رہے ہیں۔ یا جیسا کہ شیعہ کے علماء آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں: کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی خیانت ہو سکتی ہے؟ شیعہ کا عالمی لیڈر امریکی

اتحاد کے ساتھ اختلاف اور عداوت کا اعلان کرتا ہے جبکہ اندر خانے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتا ہے۔ امریکی فوجوں کے ساتھ عراق پر قبضہ جمانے کی بھرپور کوششیں کرتا ہے تاکہ بعد میں اپنا حصہ وصول کر سکے۔ شیعہ کا یہ خطرناک کردار کوئی تعجب خیز چیز نہیں ہے۔ ان کے آباؤ اجداد بھی اسی طرح کے گھناؤنے کردار ادا کرتے رہے ہیں جیسا کہ ابن علقمی نے کیا تھا یا جیسا کہ موجودہ دور میں ان کے لیڈر عبد المجید خونی، محمد الباقر الحکیم، اور علی السیستانی عراق میں کر رہے ہیں۔ یہ بدکردار شیعہ مسلمان ممالک پر کفار کے قبضہ کے لئے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ واللہ المستعان!!

افغانستان اور عراقی حکومتوں کے خاتمے میں ایران کا کردار

اور امریکہ کے ساتھ اس کے خفیہ تعلقات؟

اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حالیہ جنگوں میں ایران نے پس پردہ رہتے ہوئے نہایت اہم اور بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ خصوصاً افغانستان اور عراق کی حالیہ جنگوں کے دوران اور جنگوں سے پہلے اور جنگ کے خاتمے پر اس کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ بلکہ یہ امریکہ کے صف اول کے اتحادی تھے جنہوں نے افغانستان اور عراق کی تباہی کے منصوبے بنائے اور اس مقصد کے حصول کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کی ان تھک کوششوں کا مقصد صرف ان دو حکومتوں کا خاتمہ تھا تاکہ ان علاقوں میں اپنی نسلی شیعہ متعصب جماعت کو فروغ دے سکیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اس بات کا اعتراف خود امریکیوں کو بھی ہے کہ اگر ایران کی شمولیت نہ ہوتی تو طالبان حکومت کا اس تیزی سے خاتمہ ممکن نہیں تھا ان کے اس تعاون کو اس خوبصورت جیلے میں سمودیا گیا ہے۔

”لَوْلَا كَ يَا اخَا الْفَرَسِ مَا مَسَقَطَتْ كَابِلٌ وَلَا بَغْدَادُ.“

”اے ایرانی بھائی اگر تم نہ ہوتے تو کابل اور بغداد کبھی فتح نہ ہوتے۔“

ایران کی انہی رضا کارانہ خدمات کے صلے میں جو اس نے امریکی افواج کے لئے عراق میں سرانجام دیں تھیں، ایران کو عراقی پارلیمنٹ میں بھرپور شیعہ نمائندگی کی صورت میں اس کا صلہ دے دیا گیا۔ امریکی قابض فوج نے جیسے ہی شیعہ افراد کی اکثریت پر مشتمل نئی عراقی حکومت کا اعلان کیا تو ایران نے سب

سے پہلے اس نام نہاد حکومت کو تسلیم کر لیا حالانکہ یہ حکومت اپنے قانونی جواز سے بھی محروم ہے۔ اس کے فوراً بعد تحریک مجاہدین خلق کے جنگجو میدان جنگ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جنگ سے مکمل کنارہ کشی کر لی۔ اس طرح امریکہ بھی ایران کے ساتھ بڑا نرم رویہ اپنائے ہوئے ہے اگرچہ ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب ایک بار پھر خفیہ میٹنگوں میں ایران اور امریکی اتحاد کے لئے مسودات تیار کئے جا رہے ہیں۔

یہ کہنا کہ ایران نے عراق پر امریکی حملے کے وقت مکمل کنارہ کشی کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ تمام اشارے اس بات کی دلیل ہیں کہ ایران امریکی حملے پر بے حد خوش تھا کیونکہ عراقی حکومت کے خاتمے سے ان کے نسلی تعصب اور گروہی عنصر پر مبنی تمام مقاصد حل ہو رہے تھے۔ حالانکہ عراقی حکومت کے خاتمے سے امریکی افواج جنہیں ایرانی حکمران ”شیطان اکبر“ کہتے نہیں تھکتے، وہ مستقبل میں ایرانی سرحدوں پر منڈلاتی نظر آئیں گی۔

کیا حزب اللہ نے مسلمانوں میں رافضی شیعہ

عقائد کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے؟

لبنانی حزب اللہ نے اپنے سٹیلاٹ چینل ”النار“ کے ذریعے سے عالم اسلام کے سنی مسلمانوں میں شیعہ امامیہ کے باطل عقائد کی خوب نشر و اشاعت کی ہے۔ یہ چینل شیعہ مذہب پھیلانے کا منبر ہے جسے وہ تقیہ کے استعمال سے خوب استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا وہ ایسی کوئی بات نشر نہیں کرتے جس سے سنی مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ بلکہ ہمیشہ اسلامی اتحاد اور اسرائیلی قابضین کے ساتھ جہاد کی باتیں ہی نشر کریں گے۔

حزب اللہ کا لیڈر حسن نصر اللہ ہمیشہ سنی شیعہ اختلافی مسائل پر گفتگو کرنے سے مکمل احتراز کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے خود کو ایسے ہیرو کی صورت میں پیش کیا ہے جس کا مقصد لبنان کی آزادی اور یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے۔ اس کے اس بہرہ دہ سے بے شمار سنی مسلمان اس کے فریب کا شکار ہو گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ حزب اللہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کو اسرائیلی جبر و ستم سے نجات دلانے کی!!

اس طرح حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف چند کھائے کی کارروائیوں اور چند میزائل حملوں کے ذریعے سے اپنے عقائد کی نشر و اشاعت کی ہے۔ ان میزائل حملوں کی آڑ لے کر حسن نصر اللہ، خمینی کے لئے رحمت کی دعائیں کرتا ہے (اور سادہ لوح لاعلم سنی مسلمان بھی اس کے لئے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں) حالانکہ خمینی ہی وہ شخص ہے جس نے ایران میں بے شمار سنی مسلمان قتل کئے ہیں۔

حسن نصر اللہ ان حملوں سے ملنے والی حمایت کے ساتھ ہی خمینی کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے اور اس کے متعین کردہ طریقے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، حسن نصر اللہ نے خمینی کی وفات کے بعد ایرانی انقلابی لیڈر حامدہ ای کی بیعت کر لی تھی۔ حتیٰ کہ بہت سارے سنی مسلمانوں کو وہم ہو گیا کہ خمینی اور حامدہ ای دو ایسے راہنما ہیں جو دین اسلام اور مسلمانوں کے عظیم مددگار ہیں اور ان کی خاطر کفار سے معرکہ آراء ہیں۔ اسی لئے آپ حزب اللہ کے ہر جلسے، جلوس اور ہر ٹھکانے پر خمینی اور حامدہ ای کی تصاویر دیکھیں گے۔

حزب اللہ نے ان لیڈروں کی کتب کی شاندار طباعت کروا کر دنیا بھر کے مسلمانوں میں تقسیم کی ہیں تاکہ اپنے باطل عقائد و نظریات کو پھیلا سکیں۔

اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ مغربی ممالک میں موجود عرب مہاجرین بھی ان کے باطل پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ حزب اللہ ہی مسلمانوں کے دفاع کا فریضہ ادا کر رہی ہے اور ظالم کفار کے سامنے صف آراء ہے۔

بلکہ کچھ عرب مہاجرین نے رافضی شیعہ کے باطنی عقائد سے جہالت کی بناء پر رافضی ہونے کا اعلان تک کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس گمراہی اور جہالت سے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

کیا لبنان اپنی ہی سرزمین پر حزب اللہ کا اسیر

بن کر ایران اسرائیل جنگ میں جلتا رہے گا یا۔۔؟

وضاح شراہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا: ”جس طرح لبنان خمینی تحریکوں کے لئے بہترین سازگار میدان عمل تھا اور لبنان کے نصیب میں صرف جل جل کر دکھنا تھا، اس طرح آج حزب اللہ

بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنے اہداف کے حصول کے لئے کوششیں جاری رکھے اگرچہ لبنان راکھ کا ڈھیر بن جائے۔“ لیجئے حزب اللہ کے سابق ترجمان ابراہیم السید کی زبانی سنئے ”ہمارے نزدیک لبنان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہماری جنگ کا میدان بنا رہے اور اسلامی مصلحت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ لبنان کی حیثیت یہی رہے۔“ (وضاح شراہ کی کتاب ”دولہ حزب اللہ“ کا صفحہ 336 دیکھیں) جب دو اسرائیلی فوجی اغوا ہوئے

تو حزب اللہ نے اس ڈرامے کا خود ہی اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ دو فوجی اغواء کئے ہیں۔ لہذا حسن نصر اللہ ”النار“ چینل پر 14 جولائی 2006ء بروز جمعہ المبارک، نمودار ہوا اور اس نے درج ذیل بھڑکیں ماریں:

”آج سے اگر تم کھلی جنگ چاہتے ہو تو کھلی جنگ ہی ہوگی۔ اگر تم اور تمہاری حکومت کھیل کے قواعد تبدیل کرنا چاہتی ہے تو اب تبدیل کر کے دیکھ لو۔ تمہیں آج معلوم ہی نہیں کہ تمہارا سامنا کس فوج سے ہے۔ تم محمد ﷺ،

علیؑ، حسنؑ، حسینؑ، اہل بیت اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے بیٹوں سے جنگ لڑنے آئے ہو۔ تمہارا مقابلہ ایسی قوم سے ہے جو ایسا مضبوط ایمان رکھتی ہے کہ اس جیسا حیا و ایمان کرہ ارض پر موجود کسی قوم کو نصیب نہیں۔ تم

نے ایک ایسی قوم سے کھلی جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا ہے جسے اپنی جنگی تاریخ اور تہذیب و تمدن پر فخر ہے اور ان کے پاس ہر قسم کے وسائل، طاقت، جنگی مہارت، عقل و دانش، علم و بردباری، عزم و ثبات اور شجاعت و بہادری

وافر موجود ہے۔ آنے والے دن ہمارے اور تمہارے درمیان معرکہ کے دن ہوں گے۔ ان شاء اللہ حسن نصر اللہ نے اپنی ان بھڑکوں کو ان الفاظ پر ختم کیا: ”رہے عرب حکمران تو میں تم سے تمہاری تاریخ پوچھنا نہیں چاہتا۔

بس مختصراً کہتا ہوں۔ ہم جاننا نہیں جانتے ہیں، جی ہاں، ہم حزب اللہ کے جاننا نہیں۔ ہم 1982ء سے جاننا ہی کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو فتح، آزادی، شرف و منزلت سے ہمکنار کیا ہے اور اپنی قوم کو سر اٹھا کر چلنا سکھایا ہے۔ یہ ہے ہماری تاریخ یہی ہمارا تجربہ ہے اور یہی ہماری جاننا ہی و سرفروشی ہے۔“

لیکن جب لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور حزب اللہ کے ایک ڈرامے کی وجہ سے بے شمار جانیں ضائع ہو گئیں۔ حزب اللہ کے اس ڈرامے ہی نے یہودیوں کو لبنان کی تباہی و بربادی کا جواز مہیا کیا تھا۔

پھر جب لبنان اربوں ڈالر کا مقروض ہو گیا تو حسن نصر اللہ نے لبنان کے New T.V پر اتوار کے روز 14/8/2006ء کو اعلان کیا: ”اگر اسے معلوم ہوتا کہ اسرائیل کے دو فوجیوں کے

اغواء سے لبنان میں اس قدر ہولناکی تباہی آئے گی تو وہ کبھی بھی انہیں اغواء کرنے کا حکم نہ دیتا۔“

حسن نصر اللہ نے وضاحت کی کہ اگر حزب اللہ کی قیادت کو ایک فیصد بھی یقین ہوتا کہ ان کے اس اقدام سے لبنان پر ایسی دردناک تباہی اتر آئے گی تو وہ بالکل ایسی کارروائی نہ کرتے کیونکہ: ”جنگی تاریخ میں ایسا ہولناک حملہ کبھی نہیں ہوا۔“

مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ: ”حزب اللہ آئندہ کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔“ حزب اللہ کے اس گھٹیا ڈرامے کا ڈراپ سین یہ ہوا کہ لبنانی بے گناہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ مارے گئے اور اسرائیل کی قید میں چلے گئے جبکہ اسرائیل جنوب لبنان کے علاقے پر قابض ہو گیا اور اس نے لبنان کا زمینی اور فضائی محاصرہ کر لیا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا لبنانی عوام حزب اللہ کے لیڈر پر مقدمہ کرنے کا مطالبہ کریں گے کیونکہ وہ لبنانیوں پر بے شمار مصائب کا باعث بنا ہے؟

کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ لبنانی حکومت نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا؟ لبنانی حکومت پر شاعر کا یہ شعر صادق آتا ہے:

و یقیناً الامر حین تغیب تیم
ولا یستأمرولن وھم شھود

(جب تیم چلا جاتا ہے تو یہ اپنے کام کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ موجود ہوتے ہوئے بھی مشورہ نہیں کرتے۔) یہ لبنان میں خطرناک ترین فیصلہ تھا اور وہ ایک اور ملک پر حملہ کرنے کا فیصلہ تھا مگر یہ سارا پروگرام حکومت کے علم میں لائے بغیر ہی مکمل ہو گیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ اس سلسلے میں حکومت وقت کی رائے تک نہیں لی گئی۔ پھر جنگ بندی بھی حکومت کے مشورے کے بغیر ہی کردی گئی۔

یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کیسے عجیب ولا چار حکمران ہیں؟ اور کتنے بے بس عوام؟ یہ سارا خونیں کھیل کس قانون اور آئین کے تحت کھیلا گیا؟

اس دوران میں لبنانی حکومت کا کردار کیا تھا؟ حکومت کا فرض تھا کہ وہ ملک و قوم کے حقوق کا دفاع کرتی، قوم کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی پراپرٹی تباہ کر دی گئی اور لبنان کی اقتصادیات اور انتظامی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لئے زبردست تباہی چائی گئی۔ (لیکن حکومت خاموش تماشا بنی رہی)۔ کیا اس تباہی اور بربادی

کا سبب بننے والے شخص یا اس کی جماعت کا محاسبہ کیا جائے گا؟ حالانکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے حکومتی محاسبہ کی بجائے حزب اللہ کسی وقت بھی کسی ادنیٰ الزام پر حکومت یا جنوب میں بسنے والے سنی مسلمانوں یا فلسطینی کمیونسٹوں کے مجبور و بے کس افراد کا زبردست محاسبہ کر سکتی ہے۔

یہاں پر ایک سوال خود بخود ابھرتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ حماس حکومت کے ساتھ سمجھوتے سے انکار کیوں کرتی ہے حالانکہ یہ قوم کی منتخب اور قانونی حکومت ہے؟ جبکہ حزب اللہ کے ساتھ ہر قسم کا سمجھوتہ کر لیتے ہیں حالانکہ حزب اللہ کی حیثیت لبنان کے اندر ایک الگ حکومت جیسی ہے یا ایک مافیا کی سی ہے جو دو اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کر کے اسرائیل کو لبنان اور لبنانی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔

اسی قسم کی کارروائی حسن نصر اللہ کا پیش رو عباس موسوی بھی کر چکا ہے۔ اس نے فروری کے وسط میں 1986ء کو دو اسرائیلی فوجی اغوا کئے تھے۔ اس پر اسرائیل نے لبنان کے کئی علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا اور لبنان کو طے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ (دیکھئے: امیر القافلہ: السيرة الذاتية سيد محمد القادسي الاسلامي السيد عباس الموسوي، تقديم: حسن نصر اللہ، مؤلف: محمد علی خانون، صفحہ 101)

ہمارے نزدیک دو اسرائیلیوں کا اغوا اسرائیل کو لبنان کو طے کا ڈھیر بنانے کا جواز فراہم کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حزب اللہ کے کردار عمل سے کچھ بعید نہیں کہ وہ آئندہ بھی اس قسم کی گھٹیا کارروائی کرے گی۔ خواہ حسن نصر اللہ کرے یا کوئی اور اس کا جانشین۔ کیونکہ جب تک حزب اللہ کے پرکٹ نہیں دیئے جاتے یہ ایسی کارروائیاں کرتی رہے گی۔

اس شخص نے سچ ہی کہا ہے کہ اسرائیلی مصلحت یہ ہے کہ حزب اللہ باقی رہے، اور حزب اللہ کی مصلحت اس میں ہے کہ اسرائیل قائم و دائم رہے۔

عراق میں صلیبی فوجوں کے خلاف جنگ میں

حزب اللہ اور اس کے پیروکار شیعہ امامیہ کا کردار کیا ہے؟

دانیال سولمان کہتا ہے: حزب اللہ کی قیادت نے امریکی حملے اور صدام حکومت کے خلاف اپنی مخالفت کو چھپایا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی آواز کو مکمل خاموش رکھا اور اپنی کارروائی جاری رکھی۔ انہوں نے

اپنی آواز اس وقت بلند کی جب انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے امریکی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے عراق میں کوئی امداد نہیں بھیجی۔ لیکن جب بغداد میں ذکر ہوا کہ حزب اللہ کے چھ جنگجو گرفتار کر لئے گئے ہیں جو عراقی اور شامی سرحد پر تھے تو حزب اللہ نے فوراً رسمی تردید کر دی کہ یہ افراد ان کی تنظیم کے نہیں تھے۔ (دیکھئے: کتاب "لاہو اعد حديد للعبة: اسرائيل و حزب الله بعد الانسحاب من لبنان" کتاب کا آخری صفحہ دیکھیں)

اسی طرح شیعہ کے رہنماؤں نے آیہ اللہ العظمیٰ علی السیستانی کی رہائش گاہ پر منعقد ایک اجتماع میں اعلان کیا کہ وہ عراق میں امریکی فوجوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے بلکہ کویت کے الوطن اخبار نے لکھا ہے (کویت کے "الوطن" اخبار کا 2004/8/29 کا شمارہ دیکھیں) کہ حزب اللہ نے عراق میں اپنے اڈے قائم کر لئے ہیں اور ان اڈوں پر نوے جنگجو بھیج دیئے ہیں جو شامی سرحدوں سے عراق داخل ہوئے ہیں۔ (دیکھئے: "الوطن" اخبار کا 2003/11/29 کا شمارہ، بحوالہ اخبار شینڈر) ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی شیعہ تنظیموں جیسے بدر، اور جیش المہدی ہے، انہیں لاجسٹک سپورٹ اور انتہائی جنس معلومات فراہم کی جاسکیں تاکہ مختلف عراقی علاقوں میں شیعہ اثر و نفوذ قائم کر کے سنی مسلمانوں کا صفایا کیا جاسکے۔ (ہم دیکھتے ہیں کہ لبنانی شیعہ امریکہ اور اسرائیل کو گالیاں دیتے نہیں تھے جبکہ عراقی شیعہ علماء اور امریکی افواج کے درمیان نہایت مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ اور عراقی شیعہ عوام کس بے شری کے ساتھ قابض فوج کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ جھلک ضمیر جات میں دیکھی جاسکتی ہے۔ کتاب کے آخر میں دی گئی تصاویر امریکی شیعہ تعاون کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔)

2006ء میں اکتوبر کے مہینے میں عراقی شیعہ تنظیم الجیش المہدی کے 35 جنگجو اور لیڈر لبنانی حزب اللہ کی باقاعدہ دعوت پر لبنان گئے۔ ان کا مقصد عسکری تعاون اور عسکری تربیت کا حصول تھا تاکہ یہ سنی مسلمانوں کی جماعتوں سے بھرپور لڑائی لڑ سکیں کیونکہ سنی مسلمان شیعہ ہلال احمر کی مکمل مخالفت کر رہے ہیں۔ (دیکھئے: انٹرنیٹ پر "مفكرة الاسلام الاخباری" بدھ 3 شوال 1427ھ بموافق 25 اکتوبر 2006ء)

میں کہتا ہوں: مسلمان بھائی! ذرا غور کریں کہ کس طرح شیعہ لیڈروں نے امریکی فوجوں کے خلاف جنگ لڑنے کی مخالفت کا اعلان کیا حالانکہ یہ ایک مسلمان ملک پر کفار کی قابض فوجیں ہیں۔

ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا لبنان میں لڑائی جنت میں داخلے کا سبب ہے اور عراق میں امریکہ کے خلاف لڑائی لڑنا جہنم میں داخلے کا سبب ہے جو تم اس سے انکار کر رہے ہو؟ (حالانکہ لبنان میں قابض فوج کے

خلاف تم بڑی نعرے بازی کرتے ہو۔

کیا عراق اور لبنان دونوں ہی اسلامی ممالک نہیں ہیں؟ یا وجہ یہ ہے کہ ایرانی، شامی اور شیعہ مفادات تمہیں صرف لبنان ہی میں جنگ لڑنے کی اجازت دیتے ہیں؟

کیا آپ کو معلوم ہے کہ دو اسرائیلی فوجی اغوا

کر کے کون سے اہداف حاصل کئے گئے؟

- 1- اسرائیل کے دو فوجی اغوا کرنے کا پہلا فائدہ یہ حاصل کیا گیا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر امریکی اور عالمی دباؤ کم ہو گیا کیونکہ پوری دنیا کی توجہ لبنان اور لبنانی قوم پر ٹوٹنے والی قیامت پر مرکوز ہو گئی تھی۔
- 2- شیعہ رافضیوں کی دو تنظیموں جیش المہدی اور بدر کو عراق میں کھلا موقع مل گیا کہ وہ عراق میں جیسے چاہیں سنی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلیں، انہیں اپنے علاقوں سے زبردستی ہجرت پر مجبور کر دیں، بے گناہوں کو اذیتیں دے دے کر قتل کریں اور ان کے اموال لوٹ لیں اور ان کی مساجد پر قبضہ جمالیں۔ یہ سارے جرائم امریکی حمایت اور ایرانی لیڈر علی السیستانی کی رہنمائی میں سرزد ہوئے۔
- 3- اس اغوا سے امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ ایرانی ایٹمی پروگرام کی مخالفت چھوڑ دے ورنہ ایران اپنی جنگ کو ایران اور خلیج سے بڑھا کر اسرائیل اور لبنان تک پھیلا سکتا ہے۔
- 4- جب شامی فوجیں لبنان سے نکل گئیں اور شامی حکومت کا اثر و رسوخ کم ہو گیا تو لبنانی قوم میں اپنے قومی وطنی وحدت کا شعور پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ ان حالات میں ایران اور شام نے مشترکہ کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طریقے سے لبنان میں اپنی حکمرانی اور سیادت کو دوبارہ مستحکم کیا جاسکے۔ لہذا انہوں نے جعلی کارڈ کھیلنے شروع کر دیئے اور حزب اللہ کو ایک مزاحمتی تحریک کے روپ میں پیش کر دیا اور اسے بھرپور اسلحہ فراہم کر دیا جبکہ اندر خانے مقصود یہ تھا کہ ایرانی صفوی اور شامی نصیری اثر و نفوذ کو بہتر بنایا جاسکے۔ خصوصاً اس وقت جب عالمی برادری اور خود لبنانی حکومت حزب اللہ کو ہتھیار پھینک کر لبنانی فوج میں شامل ہونے کا مطالبہ کر چکی تھی۔ لیکن ایسا کرنے سے ایرانی مفادات کو سخت نقصان پہنچتا لہذا انہوں نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تاکہ مزاحمت کے نام پر حزب اللہ کے پاس ہتھیار باقی رہیں۔

مصر کے وزیر خارجہ احمد ابو الغیط نے 2006/10/22 کو وضاحت کی تھی کہ (دیکھئے اس دن کے اخبارات اور الجزیرہ چینل کی نیوز) دو اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کرنے کا مقصد الطائف معاہدے کو توڑنا تھا جس میں واضح کہا گیا تھا کہ حزب اللہ ہتھیار پھینک دے گی۔ یہ سارا ڈھونگ مزاحمت کے نام پر چایا گیا ہے حالانکہ اس کا مقصد صرف ایرانی مفادات کا تحفظ ہے۔

ابو الغیط کہتا ہے: شیعہ کے کھیت اور دیگر لبنانی علاقے جن کی آزادی کا اعلان حزب اللہ کرتی رہتی ہے وہ ابھی تک اسرائیلی قبضے میں ہیں۔ اس اغوا اور اس جنگ سے لبنان اور حزب اللہ کو سوائے لبنانی سٹرک پر کی تباہی اور زبردست مالی خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔

5- اس اغوا سے فلسطینی تحریک مزاحمت پس پردہ چلی گئی کیونکہ شیعہ اور اسرائیل کے درمیان اسلحے کی خریداری کے معاہدوں پر عالمی برادری نے ایران کو لعن طعن کی۔ ان کی اس خریداری کو رسوا کن نام ”ایران گیٹ“ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ایران ”شیطان اکبر“ کے ساتھ تعاون اور معاہدوں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے طالبان حکومت کے خاتمے کے لئے اپنی خدمات پیش کیں اور عراقی حکومت کے خاتمے میں بھی اپنا کردار ادا کیا تاکہ شیعہ نسلی گروہ کو سنی مسلمانوں پر غلبہ اور تسلط مل جائے۔ ایران نے شیعہ ملیشیا کو مالی امداد فراہم کی تاکہ سنی مسلمانوں کی نسل کشی کی جاسکے اور انہیں خالمانہ ہجرت پر مجبور کیا جاسکے تو حزب اللہ نے یہ جنگ چھیڑ دی تاکہ مزاحمت کے نام پر شہرت اور عوامی حمایت حاصل کر سکے۔ اور آئندہ جنگوں میں جمہور سنی مسلمانوں کی حمایت حاصل کر سکے تاکہ شیعہ اثر و رسوخ کو مزید پھیلا یا جاسکے۔

فلسطینی مؤلف غازی التوبہ لکھتا ہے: ”لبنان میں یہودیوں کے ساتھ حزب اللہ کی جنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف لبنان، عالم عرب اور عالم اسلام میں ایران اور شیعہ کے پروپیگنڈے کو خوب پھیلا یا جاسکے اور دوسری طرف عراق میں ایرانی جرائم پر پردہ ڈالا جاسکے۔“ (دیکھئے: ”احیاء“ میگزین میں غازی التوبہ کا مضمون، شمارہ نمبر 15848، مورخہ 2006/8/25، صفحہ 19)

کیا ہم غاصب یہودیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ سے محروم کر دیئے جائیں گے؟
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، جب ایک جماعت جہاد کر رہی ہو تو باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. (التوبة، آیت نمبر 122)

”اور مومنوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لئے کیوں نہ نکلا، تاکہ جب وہ اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ (پیچھے والے بھی اللہ سے) ڈریں۔“

جبکہ تین مواقع پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے:

1- جب مسلمان اور کافر صف آراء ہو جائیں اور دونوں جماعتیں باہم تھم گھٹا ہو جائیں تو اس وقت میدان جنگ میں موجود افراد کا وہاں سے فرار ہونا حرام ہے بلکہ ان کے لئے جنگ لڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. (الانفال، 45)

”اے ایمان والو! جب تمہارا کسی گروہ سے آمناسا منا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

2- جب امام، حکمران لوگوں سے جہاد کے لئے کہے تو ان کے لئے جہاد کے لئے نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ ط. (التوبة، 38)

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔“

پھر ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جہاد کی فرضیت کی سات شروط بیان کی ہیں جو یہ ہیں:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1- مسلمان ہونا۔ | 2- بالغ ہونا۔ |
| 3- عقل | 4- مرد ہونا۔ |
| 5- آزاد مرد ہونا۔ | 6- جسمانی طور پر معذور نہ ہونا۔ |

7- جنگی اخراجات کا موجود ہونا۔

ممکن ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آخر تم سنی مسلمان یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لئے شیعہ امامیہ کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرتے؟

تو ہم اسے جواب دیں گے: شیعہ امامیہ، اہل سنت کے ساتھ متحد کب ہوئے تھے؟

ایک مسلمان قائد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے اور کفر و شرک کو ملیا میٹ کرنے کے لئے جہاد سے بھرپور زندگی گزاری۔

اس عظیم صاحب بصیرت و دانش مجاہد اور شجاع قائد نے شیعہ اسماعیلیہ کی حکومت الدولۃ العبدیہ کو ختم کر دیا تھا اور انہیں حکومت سے محروم کر دیا تھا، ان شیعہ کے غلبے اور تسلط کے خاتمے کے بعد اس نے بیت المقدس میں یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ کی تھی۔

بلاشبہ ہم یہودیوں کے قتل اور انہیں پھینچنے والی ہر مصیبت پر خوش ہوتے ہیں، خواہ اس کا سبب کوئی بھی ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم حزب اللہ کے پُر فریب ڈرامہ بازی، جھوٹ اور بے بنیاد نعروں سے دھوکہ کھا جائیں جنہیں وہ سادہ لوح مسلمانوں اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لئے ہر وقت لگاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقینی علم ہے کہ حزب اللہ صرف اور صرف ایران اور شام کے مفادات کی محافظ ہے۔ یہ اسلامی مقدس مقامات کی آزادی کے لئے ہرگز جدوجہد نہیں کر رہی اور نہ کبھی بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لئے جنگ کرے گی۔

یہاں کچھ سوالات ہیں جو خود بخود

اُبھرتے ہیں (حالانکہ وہ تلخ حقائق ہیں)

1- ایران، لبنان میں جاری جنگ میں اپنے شیعہ کے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوا حالانکہ وہ اسرائیل کو دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے شام پر حملہ کیا تو وہ بھی اس جنگ میں پوری فوجی طاقت کے ساتھ شریک ہو جائے گا؟

2- حزب اللہ اسرائیلی جیلوں میں قید لبنانی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ تو کرتی ہے۔ (جیسا کہ 1992ء

میں حزب اللہ کے انتخابی پروگرام میں بھی یہ مطالبہ شامل ہے۔ دیکھیں: نعیم قاسم کی کتاب: حزب اللہ، صفحہ 394) لیکن شامی جیلوں میں اسیر سنی مسلمانوں کی رہائی کا مطالبہ بالکل نہیں کرتی، بلکہ کبھی ان کا تذکرہ تک نہیں کرتی، آخر کیوں؟

3- ایرانی وزیر اعظم محمود احمدی نژاد نے ایرانیوں کو حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں اسرائیلی جنگ میں شریک ہونے سے منع کیوں کیا؟

یہ بات یاد رہے کہ محمود احمدی نژاد یہ نعرے لگاتا رہا ہے: ”اسرائیل کو عالمی نقشے سے مٹانا واجب ہے۔“ (جیسا کہ ”الریاض“ اخبار کے شمارہ نمبر 13916، مورخہ 6 رجب 1427ھ بموافق 31 جولائی 2006ء میں لکھا ہے)

4- جب حماس کے لیڈر جناب احمد یاسین اور عبدالعزیز الرنتیسی اسرائیل کی وحشیانہ دہشت گردی میں شہید ہو گئے تو حزب اللہ نے ایک بھی میزائل اسرائیل پر نہیں داغا۔ آخر کیوں؟

حالانکہ تحریک حماس عین میدان جنگ میں مصروف عمل ہے اور اسے ہر قسم کی امداد، قوت اور تعاون کی شدید ضرورت ہے جبکہ حزب اللہ کے لیڈر مثلی ویرٹن پر اپنے خطابات میں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے دعوے اور فلسطین کے دفاع کے نعرے تو لگاتے رہتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ فلسطین کی تحریک آزادی کے دو ممتاز رہنماؤں کے قتل پر حزب اللہ کی مجرمانہ خاموشی کی آخر وجہ کیا ہے؟

5- حزب اللہ نے دو اسرائیلی فوجی دو بنیادی مقاصد کے حصول کے لئے اغوا کئے تھے۔ (1) اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے۔ (2) حسن نصر اللہ کے دعوے کے مطابق مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لئے۔ لیکن اس کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل نے مزید علاقوں پر قبضہ جمالیا، اور کچھ علاقے اقوام متحدہ کی نگرانی میں چلے گئے، اسرائیل کی جیلیں مزید لبنانی اور فلسطینی قیدیوں سے بھر گئیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حسن نصر اللہ نے ذرائع ابلاغ پر اپنی دھواں دھار تقاریر کے سوا کچھ حاصل بھی کیا ہے؟ صرف ”المنار“ جیسے ٹی وی چینل حسن نصر اللہ کی فتح کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جبکہ حسن نصر اللہ اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ (سوائے سنی مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کرنے کے)

6- بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حسن نصر اللہ اور اس کی تنظیم حزب اللہ اسرائیل کے لئے بہت بڑا خطرہ اور چیلنج بن گئی ہے اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر حسن نصر اللہ کا نام اسرائیل کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟

7- آخر حسن نصر اللہ کی گرفتاری پر نقد انعام کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا؟ (جیسا کہ دیگر مجاہدین کی گرفتاری پر کروڑوں ڈالر کا اعلان کیا گیا ہے)۔

8- دیگر اسلامی جماعتوں اور فلاحی اداروں کی طرح حزب اللہ کے اٹاٹے نغمہ کیوں نہیں کئے جاتے؟

9- ہم نے حزب اللہ کے یہ اعلان بڑے تسلسل کے ساتھ سنے ہیں کہ حزب اللہ یہودیوں سے مزارع شہبا کا علاقہ آزاد کرانے تک اسرائیل کے ساتھ جنگ جاری رکھے گی۔ لیکن اب حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ اسرائیل لبنانی علاقوں سے ابھی نہیں نکلا۔

10- کیا وجہ ہے کہ حسن نصر اللہ معزز قائدین کی طرح میدان جنگ میں براہ راست شریک ہو کر اپنی افواج کی صف بندی نہیں کرتا؟

11- حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل، فلسطین میں شکست کھا گیا ہے، اگر حقیقت ایسے ہی ہے تو پھر یہودی فوج پرتا بڑ توڑ حملے کیوں نہیں کئے جاتے اور اسرائیلی مظالم ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟

12- کیا وجہ ہے کہ حزب اللہ عراق میں ایرانی مدد کے لئے دخل اندازی کرتی ہے اور احواز کے سنی مسلمانوں کی خونریزی میں بھی شرکت کرتی ہے لیکن غاصب امریکیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی؟ حزب اللہ کے لیڈر اور ان کے سردار کی طرف سے امریکیوں کے قتل کا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا حالانکہ انہوں نے عراق پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے جس میں شیعہ کے آئمہ ”معصومین“ کی قبریں اور مزارات ہیں؟

ضمیمہ جات

1- حزب اللہ کے سابق جنرل سیکرٹری کی وضاحت جو انہوں نے ”الشرق الاوسط“ اخبار میں بروز جمعرات، 29 رجب 1424 ہجری بموافق 25 ستمبر 2003ء کو شمارہ نمبر 9067 میں کی۔

جناب صبحی الطفیلی سابق جنرل سیکرٹری حزب اللہ نے ”الشرق الاوسط“ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا: ”ایران دنیا بھر کے شیعوں کے لئے خطرہ بن چکا ہے، ایران امریکی منصوبوں کا مرکزی کردار اور لبنانی مزاحمت کا مین کردار ہے۔ ایران نے ہماری تحریک مزاحمت کو اغوا کر لیا ہے اور اب اسرائیلی حدود کا چوکیدار بن گیا ہے۔“

بیروت سے شاعر عباس کی رپورٹ:

یہ انٹرویو حسین درویش نے ہعلیک کے جنوب میں بریتال شہر کی قدیم عمارت حسینہ میں لیا۔ حزب اللہ کے سابق جنرل سیکرٹری سے یہ انٹرویو لیا گیا جبکہ وہ اس سے پہلے 1997ء سے روپوش تھے۔ انہوں نے حزب اللہ اور لبنانی حکومت کے ساتھ اختلافات اور تنازع کی وجہ سے خود کو منظر عام سے ہٹا لیا تھا۔ جب ایران کے ساتھ ان کا فکری اور نظریاتی اختلاف بڑھ گیا تو انہوں نے حزب اللہ سے علیحدگی اختیار کر لی حالانکہ وہ حزب اللہ کے بانی اور پہلے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کے یہ اختلافات قتل و غارت تک پہنچ گئے جس سے ایک فوجی افسر اور سابق نائب سیکرٹری شیخ خضر طلحس مارے گئے۔ طفیلی کے کچھ مددگار حزب اللہ کے زیر تحوت حوزہ دینیہ میں قتل کر دیئے گئے۔ اس کے بعد طفیلی لبنانی محکمہ عدالت کو مطلوب ہو گیا اور پھر گزشتہ چھ سالوں میں عدالت نے اسے کبھی حاضر اور کبھی غائب مان کر فیصلے دیئے۔ اس تمام عرصے میں وہ کہاں رہے۔ ان کے دوستوں اور دشمنوں کو خوب معلوم تھا۔ باوجودیکہ انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس عرصے میں انہیں گرفتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔

اپنی روپوشی کے دوران شیخ الطفیلی وقتاً فوقتاً منظر عام پر بھی آتے رہے۔ ایک مرتبہ 2000ء کے انتخابات میں بھی بھرپور قوت کے ساتھ شرکت کی۔ اس طرح 2002ء میں ام ٹی وی پر بھی نمودار ہوئے لیکن بعد میں یہ ٹی وی چینل بند کر دیا گیا۔ شیخ کے بقول اس انٹرویو کی وجہ سے ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو کے ذریعے خمر یا مال المر کے ساحلی علاقے کے ضمنی انتخابات میں اپنے نامزد امیدوار کو کامیاب کرایا ہے۔ بعد ازیں اس کی نیابت بھی ختم کر دی گئی تھی۔ شیخ الطفیلی کو اپنی روپوشی سے نمودار ہونے کے ان واقعات کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی جب ان کی جبری روپوشی کی حالت بد سے بدترین ہو گئی اور بالآخر وہ حسینہ بلڈنگ میں مقید ہو کر رہ گئے۔

شیخ الطفیلی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا الشارع البقاعی میں گہرا اثر و رسوخ ہے اور شیخ اپنے موقف پر ڈٹ جانے والے جو امرد کے طور پر معروف ہیں۔ انہوں نے ”الشرق الاوسط“ کے ذریعے اپنے موقف کی وضاحت کی ہے جبکہ علاقے میں حالات نہایت ناسازگار ہو چکے تھے۔

لیکن ہم صرف ایک صحافی کی حیثیت سے ان کی شخصیت کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیں گے کیونکہ ان کے دور کے بے شمار کٹھن مسائل کے بارے میں ان کی معلومات کافی وسیع ہیں۔ جس دور میں آپ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری تھے، اس دور میں حزب اللہ نے آپ کی قیادت میں اسرائیل کو لبنان سرزمین سے باہر نکال دیا تھا۔

شیخ کے ساتھ اختلاف رائے ہونے کے باوجود ”الشرق الاوسط“ کے نمائندے حسین درویش نے یہ انٹرویو لیا اور اس میں ملکی اور عالمی موضوعات پر شیخ سے گفتگو کی۔ شیخ نے اس انٹرویو میں ایرانی حکومت کے کردار پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ اور اسے لبنان اور علاقے کے شیعوں کے لئے خطرناک قرار دیا ہے۔

سوال 1: کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ اب مزاحمت اور جنگ ختم ہوگئی ہے؟

جواب: کیا اس میں کوئی شک باقی ہے؟ یہ مزاحمتی تحریک تو اسی وقت ختم ہوگئی تھی جب تحریک کے قائدین نے 1994ء میں تموز 1996ء میں نیسان میں معاہدات میں شرکت کی تھی۔ ان معاہدات کی روشنی میں اسرائیلی ایجنسی تنصیبات کو مکمل تحفظ دے دیا گیا تھا اور یہ معاہدہ ایرانی وزیر خارجہ کی تائید و حمایت کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن یہ معاہدات لبنان کی فتح تصور کئے گئے ہیں کیونکہ اس نے لبنانی شہریوں کو اس جنگ سے بچا لیا تھا اور مزاحمت کے قانونی ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ حالانکہ مزاحمتی کاروائیاں مزارع شعبا میں وقفہ فوجی جاری رہیں۔ ان معاہدات کا اساسی اور اصلی مقصد تحریک مزاحمت کو ختم کر کے اسرائیل کے ساتھ معاہدات میں باندھنا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شعبا میں موجود اسرائیلیوں اور فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں دندنانے والے اسرائیلیوں میں کوئی فرق ہے؟

یہ تو اسرائیلی قبضے کا اعتراف ہے۔ میرے نزدیک لبنانی سرحدی گاؤں الخیام فلسطینی شہروں عکا اور حیفا جیسا ہی ہے۔ ان کی حیثیت برابر ہے۔ میرے لئے یہ چیز سخت اذیت ناک ہے کہ جن نوجوانوں نے میرے ساتھ موت سے کھیل کر عربی مقبوضہ علاقے آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، اب وہ اسرائیلی سرحدوں پر اسرائیل کی تنصیبات کے محافظ بن کر کھڑے ہیں۔ اور جو شخص بھی اسرائیلیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ اسے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔

سوال 2: کون سی جیلوں میں انہیں سزائیں دی جاتی ہیں؟

اس کی کئی صورتیں ہیں۔ جن لوگوں نے ایسی کارروائیوں کی کوششیں کیں انہیں لبنانی حکومت کے حوالے کر دیا گیا اور انھوں نے ان سے سخت تنقید کی ہے۔

سوال 3: کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ تحریک مزاحمت نے یہ معاہدے اس لئے کئے ہیں تاکہ لبنان اور شام پر عالمی اور ملکی دباؤ ختم کیا جاسکے؟

میں مواقع کے انتظار کرنے کا مخالف نہیں ہوں، کیونکہ حکمت یہی ہے کہ مناسب موقع پر کارروائی کی جائے۔ لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے، آپ موقع کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ملکی سطح پر مناسب موقع کا آنا ناممکن ہے اور نہ یہ حکمت ہے کیونکہ یہ عالمی دباؤ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور ہمارے لئے مناسب موقع کبھی نہیں آئے گا۔ میں تحریک مزاحمت میں شریک اپنے بیٹوں سے کہوں گا کہ تم جو کام اب کر رہے ہو وہ حرام ہے اور دشمن کی خدمت ہے اور اپنے مقصد سے خیانت ہے یا ہتھیار پھینک کر گھروں کو سدھار جاؤ یا ان معاہدوں کو توڑ کر دشمن پر آگ برسا دو۔ تمہیں کوئی شخص فتوے کے ذریعہ، یا ولایت فقیہ کے نام سے دھوکہ نہ دے کیونکہ دنیا کا کوئی فقیہ مجھے دشمن کا فری خدمت کا حکم نہیں دے سکتا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ جس تحریک مزاحمت کو ہم نے اپنے شہداء کے خون سے سنبھالا ہے انہوں نے ہمارے دشمنوں کی خدمت پر لگا دیا گیا۔

سوال 4: آپ کے متعلق ایرانی موقف میں کب تبدیلی آئی؟ کیا آپ کو حزب اللہ کے فیصلوں سے الگ کرنے میں ایرانی حکومت کا بھی کچھ کردار ہے؟

مجھے پہنچنے والی تمام تکالیف کے باوجود میری یہ انتہائی کوشش رہی ہے کہ میں اپنے ذاتی مسائل کو جماعتی مسائل سے دور ہی رکھوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام ماضی کے مظالم اور حالیہ تکالیف کے باوجود ایرانی قیادت کو کوئی الزام نہیں دیا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ذاتی مسائل کو کسی بھی جماعتی مسئلے میں داخل نہ کروں۔ لیکن جب تحریک مزاحمت کا موقف تبدیل ہو گیا اور ایران بھی امریکہ کے علاقائی مفادات کے ساتھ متفق ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنی خاموشی کو توڑ دوں اور حق بات کو کھل کر بیان کر دوں۔

سوال 5: ہم واپس آتے ہیں اس تبدیلی کی طرف جو حزب اللہ کے موقف میں آئی ہے۔ آپ کی قیادت میں حزب اللہ نے بڑا مضبوط موقف اختیار کر رکھا تھا کہ دشمن کے ساتھ صلح نہیں ہوگی اور ان کیساتھ سخت گیر

رو یہ اپنایا جائے گا۔ نیز اس دور میں حزب اللہ مغربی لوگوں کو ریغال بنانے کا خطرناک کھیل بھی کھیلتی تھی۔
مغربی لوگوں کو ریغال بنانے کے موضوع پر کسی مناسب وقت پر بات ہوگی، لیکن ہم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کاروائی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

لیکن حزب اللہ کے موقف میں تبدیلی کو دو نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔
(i) امام خمینی کی رحلت کے بعد ایرانی سیاست میں تبدیلی نمایاں تھی۔ اور اس سیاسی تبدیلی سے واضح تھا کہ یہ عنقریب ہمارے اسلامی موقف سے ٹکرائے گی۔

(ii) ایران میں کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں جو ہماری نزدیکی اور قربت کو بالکل پسند نہیں کرتے۔
6۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟

میں نے ایرانیوں کو بار بار کہا تھا کہ جب تمہاری مصلحت ہماری مرضی اور پسند سے ٹکرائے گی تو میں اپنی پسند کو ترجیح دوں گا۔ میں ایران اور اس کی سیاست کا ایجنٹ نہیں ہوں گا۔ میں تمہارا بھائی اور شریک کار ہوں، اس سے زیادہ یا کم مرتبے پر میں کبھی راضی نہ ہوں گا۔

لیکن پوری دنیا میں طاقتور لوگ کمزور کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ایسے کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو اندھا دھندان کی پیروی کو ہی اپنا مقصد بنالیں۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری آزادی چھین لی جائے اور میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر سکوں۔ کیا مسلمان فقہاء میں کوئی ایسا فقہر بھی ہے جو فقراء اور کمزور مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ڈھالنے والے کافروں کا ساتھ دینے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا فتویٰ دیتا ہو؟ اس لئے جب آپ ایسے ظالمانہ نظام کے ساتھ چلنے سے معذوری کا اظہار کریں گے تو وہ پوری قوت اور وسائل کے استعمال سے آپ کو دور پھینک دیں گے۔

سوال 7۔ لیکن آپ کے بعد حزب اللہ صرف لبنان ہی کے گیت گاتی نظر آتی ہے؟
جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایران لبنان میں دخل اندازی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لبنان کے متعلق فیصلے بیروت میں نہیں ہوتے بلکہ تہران میں ہوتے ہیں۔

8۔ کیا آپ کے دور میں بھی حزب اللہ کے فیصلے تہران میں ہوتے تھے؟
جی ہاں میرے دور میں بھی ایران کی مذہبی قیادت ہی فیصلے کرتی تھی۔ لیکن اس وقت فیصلوں میں

باہمی اتفاق ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر فیصلے مسلط کئے جا رہے ہیں بلکہ وہ ہماری رضامندی پر منحصر ہوتے تھے جب امام خمینی کی طرف سے حکم آتا یا ان کے کسی ساتھی کی طرف سے حکم آتا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرو تو ہم اس کو جو بی حکم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا ہماری رضامندی پر منحصر ہوتا تھا۔

سوال 9۔ کیا خمینی کی وفات سے آپ کی ایران سے جدائی کا سفر شروع ہوا؟

ہمیں کہنا چاہیے کہ خمینی کی وفات سے ہمارے درمیان دوری پیدا ہونا شروع ہوئی۔

سوال 10۔ اس وقت شامی حکومت کا موقف کیا تھا؟

جب شامی حکومت نے دیکھا کہ اسرائیل لبنانی تالاب میں ڈوبنے والا ہے تو اس نے بھی پروگرام بنایا کہ اسرائیل کو گھیر کر لبنان میں اکٹھا کر لیا جائے لیکن لبنانی حکومت نے جزیں کے علاقے میں فوج بھیجنے سے منع کر دیا، یہ علاقہ لبنان سے چھین لیا گیا تھا۔ لیکن جب الجوب کے علاقے سے مزارع شعبا پر قبضہ ہوا تو اس پر دباؤ بڑھ گیا گویا کہ شامی حکومت چاہتی تھی کہ ایریل نسیان معاہدے پر لوگوں کو جمع کر دیا جائے اگرچہ اس میں پسپائی اختیار کرنی پڑے، لیکن ایرانی حکومت کے اپنے حسابات اور مفادات تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی خواہش پر اتفاق کر لیا تھا اور حزب اللہ کو خاموش کر دیا گیا اور بالآخر اسے میدان کارزار سے باہر نکال دیا گیا۔

سوال 11۔ آپ عراقی شیعہ کے موقف سے راضی نہیں ہیں۔ تو یہ شیعہ موقف کیا رخ اختیار کرے گا؟

عراق میں شیعہ منصوبہ دیگر منصوبوں کی طرح ہی ہے۔ وہاں وہ لوگ اپنی عقل کم استعمال کرتے ہیں اور دیگر بہت سارے عوامل ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جنوبی لبنان کی شیعہ بستیوں اور شہروں نے اسرائیلی فوج کا استقبال پھولوں اور گلدستوں سے کیا تھا۔ اور یہ بعض فلسطینی جماعتوں کے عمل پر رد عمل کے طور پر ہوا تھا۔ لیکن دو سال کے قلیل عرصے میں یہی لوگ تحریک مزاحمت کے ہراول دستے بن گئے تھے۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ عراق میں شیعہ موقف بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔ اصل مشکل سیاسی لوگوں کی ہے کیونکہ اکثر دینی سیاسی لوگ ایرانی حکومت کے زیر سایہ ہیں جو امریکہ کے ساتھ اتفاق کر چکی ہے۔ ایران ہی نے شیعہ سیاستدانوں کو امریکی افواج کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کو قبول کرنے اور اس میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے۔
سوال 12۔ کیا آپ ایرانی حکومت کے امریکہ کے ساتھ عراقی معاملات میں اتفاق رائے اور امریکہ کے

ایران پر ایٹمی معاملات میں سخت دباؤ میں تضاد نہیں پاتے؟

ہمیں خود فریبی کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ عراق جنگ سے پہلے امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لئے ایرانی انقلابی مجلس اعلیٰ کے ایک وفد نے واشنگٹن کا دورہ بھی کیا تھا۔ عراق میں ایرانی گروہ امریکی سسٹم کا ایک جزء ہیں حتیٰ کہ ایران کے ایک بڑے خطیب نے دارالحکومت کی ایک مسجد میں جمعہ کے خطبے میں کہا کہ اگر ایران نہ ہوتا تو امریکہ افغانستان کی دلدل میں غرق ہو جاتا۔ ایرانی حکومت نے امریکیوں کے لئے افغانستان میں داخل ہونا ممکن بنایا اور اب امریکہ کے وہاں قیام کے لئے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ رہا ایرانی سفیر کو گرفتار کرنے کا ڈرامہ یا ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ایران پر دباؤ ڈالنے کا مسئلہ تو یہ ایران کو امریکہ کے ساتھ تعاون کے لئے آسان شرائط پر راضی کرنے کی کوششیں ہیں۔

ایرانی شیعہ افغانستان میں امریکی منصوبوں کے لئے ہر قسم کی سپورٹ مہیا کر رہے ہیں۔

اسی لئے میں کہتا ہوں اور دنیا بھر کے شیعوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ تمہارے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایرانی حکومت کے یہ اعمال اسلام اور تشیع دونوں کے لئے سخت نقصان دہ ہیں۔ (انٹرویو مکمل ہوا۔ ہم نے اپنی کتاب سے غیر متعلق سوالات حذف کر دیئے اور باقی سوالات کا خلاصہ پیش کر دیا ہے)

حسن نصر اللہ اور اس کی جماعت سے بچو

تحریر: پروفیسر عبدالعزیز بن ناصر الجلیل

مورخہ: 1427/6/29ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ وسلم و بارک علی عبده و رسولہ نبینا

محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، و بعد:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهِ ؕ ذٰلِكُمْ وَصَّیْكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (الانعام، 153)

”اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو

وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّیْ مَا تُوَلِّیْ وَنُصَلِّیْہِمْ ؕ وَسَآءَ ثَمَرُیْہِمْ ؕ (سورہ النساء، آیت نمبر 115)

”اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آجائے اور اس کے بعد وہ رسول (ﷺ) کی

مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے

جس طرف وہ جانا چاہے اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حق بات کو چھپانے اور حق کو باطل کے ساتھ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرنے سے ڈراتے

ہوئے فرمایا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (البقرہ، 42)

”اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ”..... كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ.“

(الموطا: کتاب القدر، باب النہی عن القول بالقدر، حدیث نمبر 1708)

”میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے

کبھی گمراہ نہیں ہو گے، ایک اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔“

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا۔ سَيَاتِيْ عَلَى النَّاسِ مَسَوَاتُ خُدَّاتٍ يُصَدِّقُ فِيْہَا الْكَاذِبُ وَ

يُكَذِّبُ فِيْہَا الصَّادِقُ وَيُوْتَمِّنُ فِيْہَا الْخَائِنُ وَيُحَوِّنُ فِيْہَا الْاَمِيْنُ وَ يَنْطِقُ فِيْہَا الرُّوَيْضَةُ قَلِيْلٌ

وَمَا الرُّوَيْضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ النَّافِلُ يَتَكَلَّمُ فِيْ اَمْرِ الْعَامَةِ. [صحيح الجامع، حدیث نمبر 3650،

سلسلہ الاحادیث الصحیحة، حدیث نمبر 1888]..

” (قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے) کہ لوگوں پر پُر فریب دھوکے والے سال آئیں

گے۔ ان میں جھوٹے شخص کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے شخص کو جھٹلایا جائے گا، بدویانت کو امانتدار مانا جائے گا اور

امانتدار کو خائن قرار دے دیا جائے گا اور وہ بیضہ عمومی مسائل میں رائے دے گا۔ آپ سے عرض کی گئی:

روئے بیضہ سے کیا مراد ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ایک کم عقل، ذلیل و کمتر شخص (سردار و بادشاہ بن کر) عمومی مسائل میں اپنی

رائے اور مشورے دے گا۔“

درج بالا آیات اور احادیث نہایت واضح ہیں۔ ان کی مزید تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی آیات اور احادیث مبارکہ جن میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ کے فہم کے مطابق مضبوطی سے تھامنے کا حکم آیا ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور اسلوب میں کئی طریقوں سے وارد ہوئی ہیں۔ کبھی ان کو مضبوطی سے تھام کر ولاء اور براء (دوستی اور دشمنی) اپنی رائے اور فیصلہ دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی آراء اور خواہش پرست، شبہات کا پیچھا کرنے والوں کی اتباع کرنے سے ڈرایا جاتا ہے۔ دوستی لگانے یا دشمنی رکھنے کے اصول و ضوابط کتاب و سنت کے تابع ہیں۔ آج ملک شام میں جو حادثات ہو رہے ہیں یعنی حزب اللہ یا مزاحمتی تحریک کا یہودیوں سے جنگ کرنا یا جنوبی لبنان میں تحریک آزادی وغیرہ تو یہ ایسے فتنے اور آزمائش ہیں جس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد اور کتاب و سنت کے ساتھ ان کے ربط و ضبط کی مضبوطی کو پرکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے کہ کیا ان کے عقائد کتاب و سنت اور مسلمانوں کے سلف صالحین صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے عقائد کے موافق ہیں یا نہیں۔

بہت سارے لوگ ان فتنوں میں گرفتار ہو گئے ہیں اور حسن نصر اللہ رافضی شیعہ کے کھوکھلے نعروں اور یہودیوں کے ساتھ اس کی پُر فریب جنگ سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حسن نصر اللہ اور اس کی جماعت سے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ یہ لوگ یا تو حقیقت تو حید، اسلام میں دوستی اور دشمنی کے اصولوں اور حسن نصر اللہ رافضی شیعہ کے عقائد سے ناواقف ہیں یا جان بوجھ کر جاہل بنے ہوئے ہیں۔

چونکہ اس شیعہ رافضی صنفی جماعت کا فتنہ بہت بڑا اور بہت شدید نوعیت کا ہے، اس لئے ہر صاحب علم کو حسب طاقت اس فتنے کا توڑ کرنا چاہئے۔ لوگوں کو اس جماعت کی حقیقت آشکارا کرنی چاہئے۔ لوگوں کو اس جماعت کے عقائد اور مقاصد سے آگاہ کرنا چاہئے تاکہ وہ اس دھوکہ باز جماعت سے نقصان نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اپنی خوشنودی پھجوا فرمائے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے: وہ فرماتے ہیں۔ ”نہ میں دھوکے باز ہوں اور نہ کوئی دھوکے باز مجھے فریب دے سکتا ہے۔“ امام ابن القیم رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے

ہیں۔ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت متقی اور ورع والے تھے اس لئے وہ کسی شخص کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے تھے اور نہایت صاحب بصیرت و عقل و دانش والے تھے اس لئے کوئی انہیں دھوکہ دے بھی نہیں سکتا تھا۔“ [دیکھئے: امام صاحب کی کتاب ”الروح“ صفحہ 244]

آج ذرائع ابلاغ کو جس دھوکہ دی، تلخیس اور گمراہی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے یہ فتنہ عوام سے ہوتا ہوا بہت سے صاحب علم، دیندار اور داعیان تک جا پہنچا ہے۔ اس سے اس فتنے کی شراٹگریزی کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جہاد اور مجاہدین کے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ افغانستان، عراق اور چیچنیا میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے والے مجاہدین کو دہشت گرد اور فساد کی کہا جا رہا ہے جبکہ جنوب لبنان میں رافضی حسن نصر اللہ کی قیادت میں مزاحمت کو ”شرعی جہاد فی سبیل اللہ“ کا نام دیا جا رہا ہے۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

یہ بہت بڑا بہتان ہے اور گزشتہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان گزار ہے کہ تمہارے بعد دھوکہ دی کے کچھ سال ہوں گے۔ ان سالوں میں جھوٹے کو سچا اور سچے شخص کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ بددیانت کو امانتدار اور امانتدار کو خائن کہا جائے گا۔۔۔“

حسن نصر اللہ رافضی شیعہ اور اس کی جماعت حزب اللہ کی گمراہی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کو ان کی پالیسی اور کردار کو سمجھنے کے لئے درج ذیل نکات پر غور فرمائیں۔

1- گزشتہ صفحات پر میں نے جو آیات کریمہ اور احادیث شریفہ بیان کی ہیں ان سے واضح ہے کہ مسائل کو سمجھنے، عقائد، مؤقف اختیار کرنے اور لوگوں کی افکار اور آراء کے تجزیے کے لئے معیار اور کسوٹی کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہے۔ یہی سید ہمارا راستہ اور درست میزان ہے۔ جو شخص ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر ان کی روشنی میں لوگوں سے معاملات کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور اسے گمراہ کن فتنے سیدھے راستے سے کبھی بھٹکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے واقف ہیں اور ان کی تعلیمات سے بخوبی بہر مند ہیں پھر وہ کیسے ان سب کو چھوڑ کر نسلی جذبات و عواطف، لوگوں کی گمراہ کن آراء اور خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں؟

ان کا حال شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَفْتُلُهَا الظَّمَا

وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولٌ

”خوبصورت سفید اونٹوں کو پیاس چٹیل میدان میں قتل کر دیتی ہے حالانکہ پانی کے مشکیزے ان کے اوپر لدے ہوتے ہیں۔“

آئیے اب اس مفتون شخص حسن نصر اللہ اور اس کی دھوکے باز جماعت حزب اللہ کو کتاب وسنت کے میزان میں تولتے ہیں۔ انہیں توحید اور شرک، ہدایت اور گمراہی کے ترازو میں تولتے ہیں تاکہ اس شخص اور اس کی جماعت کی حقیقت آشکارا ہو سکے۔ آیا یہ شخص حق پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے؟ یا وہ ایسے باطل پر ہے جس کی دعوت شیطان اور اس کی جماعت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے جہاد اور یہودیوں کی دشمنی کی حقیقت کو بھی واضح کرتے ہیں۔ کیا اس کی جہاد اور یہودیوں کی دشمنی اللہ کی رضا کے لئے ہے؟ یا شیطان و طاغوت کی خوشنودی کے لئے ہے؟

لہذا میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نور مبین دے کر بھیجا تاکہ آپ ﷺ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ولاء اور براء کا اصول رکھا کہ دوستی اور دشمنی اللہ کی رضا کے لئے ہوگی۔ دوستی اللہ، اس کے رسول ﷺ اور موحد مومنوں کے ساتھ ہوگی اور دشمنی و برأت شرک اور مشرکین سے ہوگی۔ اسی مقصد کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کا بازار سجا یا گیا تاکہ شرک ختم ہو جائے اور دین ایک اللہ کے لئے خالص ہو جائے اس کا کوئی شریک باقی نہ رہے۔“

یا حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کا جہاد وہی ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے دی ہے اور جس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد کرتے رہے ہیں؟“

اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے حسن نصر اللہ اور اس کی جماعت کے عقائد، ان کی عقیدہ اور سیاسی وابستگی اور ان کے اہداف و مقاصد کو جاننا ضروری ہے۔

حسن نصر اللہ 21 اگست 1960ء کو لبنان میں پیدا ہوا۔

1976ء کو تحصیل علم کے لئے عراق کے شہر نجف چلا گیا۔ وہاں اس نے جعفری شیعہ مذہب کی تعلیم

حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے البقاع کے علاقہ میں شیعہ تنظیم ”أمل الشیعة“ کا سیاسی مسئول مقرر کر دیا گیا۔ پھر 1982ء میں اسے سیاسی دفتر میں رکن کا درجہ دے دیا گیا۔ پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد اس نے أمل الشیعة سے علیحدگی اختیار کر کے حزب اللہ میں شمولیت کر لی اور اسے 1985ء میں بیروت کا مسئول بنا دیا گیا۔ پھر 1987ء میں مرکزی قیادت کا رکن اور جنگی معاملات کی کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا۔ پھر حزب اللہ کے سابق رہنما عباس موسوی کے قتل کے بعد اسے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ 1992ء میں اسے مکمل اختیارات کا حامل سیکرٹری بنایا گیا اور پھر 1993ء اور 1995ء کو دوبار اس کا انتخاب کیا گیا۔ (حسن نصر اللہ کا یہ تعارف ”مجلة الشاهد السياسي“ میں اس کے انٹرویو کے شروع میں دیا گیا ہے۔ دیکھئے شمارہ نمبر 147، مورخہ 3 جنوری 1999ء) اس مختصر سے تعارف سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن نصر اللہ رافضیت میں غرق ایک متعصب شیعہ ہے اور ایران میں رائج اثنا عشری جعفری مذہب کا پیروکار ہے۔ اس مذہب کی تائید و حمایت کرتا ہے اور اسی کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ اسی لئے ”عرب کا خمینی“ کے لقب سے مشہور ہے کیونکہ وہ عرب ممالک میں ایسی ہی رافضی شیعہ حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جیسی خمینی نے ایران میں کی تھی۔ جبل لبنان کے سنی مفتی فرماتے ہیں ”حزب اللہ عربی ممالک میں ایران کے داخلے کا مین گیٹ ہے۔“

حسن نصر اللہ کا تعارف اثنا عشری جعفری فرقے کے عقائد جانے بغیر ناقص رہے گا اس فرقے کی طرف حسن نصر اللہ منسوب ہے وہ اپنی نسبت اثنا عشری جعفری فرقے کی طرف ہونے پر فخر کرتا ہے، اس کی تبلیغ کے لئے جہاد کرتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔

اثنا عشری جعفری فرقے کے کفریہ شریک عقائد ہیں جو اس مذہب کی کتب کا مطالعہ کرنے والے کسی شخص پر مخفی نہیں۔ جو شخص ان کی قدیم و جدید کتب سے ادنیٰ واقفیت بھی رکھتا ہے وہ ان کے کفریہ عقائد سے بخوبی آگاہ ہے۔ اسی طرح جو شخص ان کے جلسے اور جلوسوں میں شریک ہوتا ہے یا ان کے سالانہ جشن اور تہواروں پر سنے گئے کفریہ کلمات سنتا ہے وہ اس جماعت سے پوری طرح واقف ہے۔ حسن نصر اللہ جس فرقے کا پیروکار ہے اس کے خطرناک ترین اور گندے عقائد میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

1- یہ فرقہ اپنے بارہ اماموں کو ہر قسم کی غلطی اور گناہ سے معصوم مانتا ہے۔ اس کے پیروکار اپنے آئمہ کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ ان کی قبروں کا حج اور طواف کرتے ہیں۔

ان سے فریادری چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کی ہر خبر جانتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے زیرِ حکم ہے۔ جیسا کہ ثننی نے بھی اپنی کتاب ”الحکومة الاسلامیة“ میں اس کا اقرار کیا ہے۔

2۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن مجید ناقص ہے اور اس میں صحابہ کرامؓ نے تحریف کر دی تھی (نعوذ باللہ) اور مکمل اور صحیح قرآن مجید ان کے امام مہدی منتظر کے پاس ہے۔ وہ اپنی گمشدگی سے واپس آئیں گے تو کامل قرآن مجید ساتھ لائیں گے۔ اس وقت شیعہ اپنے علماء اور مشائخ کے حکم پر موجودہ ناقص قرآن ہی (نعوذ باللہ) پڑھتے ہیں حتیٰ کہ امام منتظر اصلی کامل قرآن لے کر نمودار ہو جائیں۔ ممکن ہے کوئی کہنے والا کہہ دے کہ شیعہ تحریف قرآن کا انکار کرتے ہیں اور ان کی طرف یہ قول منسوب کرنا زیادتی ہے۔ تو ہم اسے جواب دیں گے کہ یہ قول ان کی معتبر ترین حوالہ جاتی کتب میں درج ہے۔ جیسے ان کے امام کلینی کی کتاب ”الکافی“ یا الطبری کی کتاب ”فصل الخطاب“ ہے۔ یہ دونوں مؤلف شیعہ کے نزدیک معتبر امام کے درجے پر فائز ہیں۔ اگر وہ اس عقیدے سے انکاری ہیں تو وہ ان دو کتابوں میں موجود اس عقیدے اور اپنے ان دو اماموں سے براءت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟

یہ کام شیعہ نے نہ پہلے کبھی کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی کر سکیں گے۔

3۔ شیعہ جعفری صحابہ کرامؓ کو سب و شتم کرتے اور انہیں کافر قرار دیتے ہیں خصوصاً صحابہ کرامؓ کے سرخیل جناب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کو یہ لوگ سخت گالیاں دیتے ہیں اور ان کی شان میں سخت گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات اور خصوصاً اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں۔ مگر یہ بد بخت امہات المؤمنین کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان پر زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے قتل و برباد کرے۔ آمین

4۔ یہ ماضی اور حال میں یہودیوں کے دوست رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دست راست بنے رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے مسلمان ممالک پر حملہ آور ہونے والے کفار کے مددگار رہے ہیں۔ ابنِ علیؓ نے تاتاریوں کی جس طرح مدد کی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں ان کی امریکی استعمار کی مدد بھی کوئی مخفی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عراق اور افغانستان کی تباہی و بربادی میں امریکیوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ابھی تک کافروں کے جاسوس اور حمایتی بنے ہوئے ہیں، ہنی مسلمانوں کی قتل و غارت اور نسل کشی میں

ان کے مددگار ہیں۔

ان کے درج بالا عقائد و اعمال کوئی خفیہ بات نہیں رہے جیسا کہ ماضی میں تھا بلکہ اب تو یہ اعمال و کردار پوری طرح عیاں ہے، خواہ ان کے اپنے اعتراف و اقرار سے ہوا ہے۔ یا ان کے خلاف ناقابل تردید دستاویزی ثبوت کے ساتھ عیاں ہوا ہے۔ یہ ہے اثنا عشری جعفری فرقے کی اصل حقیقت، اس فرقے کی طرف حسن نصر اللہ منسوب ہونے پر فخر کرتا ہے۔ کیا اب بھی اس شخص اور اس کی جماعت کے دھوکے پر مبنی نعروں اور شعروں سے دھوکہ کھانے والوں کا کوئی عذر باقی رہ گیا ہے کہ حسن نصر اللہ امت اسلامیہ کا دفاع کر رہا ہے یا وہ ملت کی طرف سے یہودیوں سے برسرِ پیکار ہے۔ یا وہ یہودی ریاست کے قلب میں کارروائیاں کر رہا ہے یا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروفِ عمل ہے؟

اگر یہ شخص اپنے ان شرکیہ کفریہ اعتقادات کے ساتھ غالب آ گیا (اللہ تعالیٰ ایسا دن اسے نصیب ہی نہ کرے)، تو یہ شخص رافضی شیعہ حکومت قائم کرے گا جس کی بنیاد شرک اکبر، صحابہ کرامؓ کو سب و شتم کرنے، اہل سنت مسلمانوں کو کافر قرار دینے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر ہوگی۔ جیسا کہ آج کل عراق میں ہو رہا ہے۔

کَيْفَ وَ اِنْ يُّظْهَرُوا عَلَيْنَكُمْ لَا يَرْفُقُوا فِيْكُمْ اِلَّا وَ لَا ذِمَّةٌ يُرْضَوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ قَالْبِيْ فَلَوْ لَهُمْ ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ فَسِقُوْنَ۔ (سورہ توبہ، آیت نمبر 8)

”کس طرح (مشرکوں سے عہدہ رکھتا ہے) جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا وہ اپنے منہ (زبان) سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔“

اس سب کے باوجود مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو حسن نصر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی فتح کی تمنا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اے مسلمانو! ہم خواب غفلت سے کب بیدار ہوں گے؟ کب ہم دوستی اور دشمنی، لوگوں کی آراء اور اپنی فکر و نظر میں معیار اور کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بنائیں گے؟ کب ہم نسلی جذبات و عواطف، جھوٹے شعارات اور دجل و فریب کے موازین سے نجات پائیں گے؟

2۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حسن نصر اللہ اور اس کی جماعت حزب اللہ ہی اسرائیلی یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے جبکہ باقی تمام ممالک اور جماعتیں اسرائیل کے مقابلے میں عاجز آ چکی

ہیں۔ حسن نصر اللہ اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور اس بات کا اعتراف خود اسرائیلی بھی کرتے ہیں۔ لہذا آپ اس شخص کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں حالانکہ وہ ملت اسلامیہ کے دشمن کو مار رہا ہے؟ کیا ہم یہودیوں کی پٹائی اور ان کے نقصانات پر خوش نہ ہوں؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور عظیم شبہ ہے۔ لیکن یہ شبہ صرف اسی شخص پر کارگر ہے اور اسے ہی گمراہ کر سکتا ہے جو صرف سطحی معلومات رکھتا ہے اور سطحی نظر سے دیکھتا ہے اور جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، اسے اس جماعت اور اس کے لیڈر کے عقائد و مقاصد کا کچھ علم نہیں ہے۔

اس شبہ کا تفصیلی جواب، اللہ کی توفیق سے، حاضر ہے۔

1- بلاشبہ یہودیوں اور ان کی تنصیبات کو پہنچنے والے ہر نقصان پر ہمیں خوشی ہوتی ہیں لیکن اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ ہمیں ثابت شدہ حقائق سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہئے اور نہ ہمیں جذبات کی رو میں بہنا چاہئے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں۔ ”یہودیوں کو مارنے والا ہر شخص ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے۔“

بلکہ ہمیں فرق کرنا چاہئے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کا ارادہ توحید و سنت کی نشر و اشاعت ہو جس طرح کہ ہمارے فلسطینی مجاہدین بھائی ہیں تو وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کی مدد کر کے خوش ہوں گے اور ان کی فتح پر مسرور ہوں گے۔ لیکن جس شخص کا جہاد شرک و بدعت اور فکر و ضلالت کی نشر و اشاعت کے لئے ہو اور وہ اپنے خفیہ مقاصد کے لئے کوششیں کر رہا ہو تو ہم ایسے شخص کو نہ دوست بنائیں گے اور نہ اس کی مدد کریں گے۔ اگرچہ اس کے دشمن کو مارنے پر ہم خوش ہوں گے حتیٰ کہ دشمن کمزور و لاچار ہو جائے۔ جیسا کہ ہم ایسے شخص کو دشمن سے مار پڑنے پر بھی خوش ہوں گے تاکہ یہ شخص شرک و کفر اور رافضیت کو پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے۔

”اللَّهُمَّ أَهْلِكَ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وَ أَخْرِجِ الْمُؤَجِدِينَ مِنْ بَنِيهِمْ سَالِمِينَ.“

”اے اللہ ظالموں کو ظالموں کے ہاتھوں ہلاک کر دے اور موحد مومنوں کو ان کے درمیان سے

صحیح سلامت نکال لے۔“

اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روافض کی مار پٹائی پر خوشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن شیعہ کے ٹھکانے اور اڈے تباہ کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم عام مسلمانوں، بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کے قتل و غارت پر خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کے قتل پر ہمیں دلی دکھ اور رنج پہنچتا ہے۔

2- لبنان میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور مکر و فریب کے جال بنے جا رہے ہیں۔ یہ جال ایران اور شام حسن نصر اللہ کو مدد دے کر بن رہے ہیں۔ انہی دو ملکوں نے حزب اللہ کو اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جھونکا ہے۔ اس سازش کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک بہت بڑے شیعہ منصوبے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور عراق پر امریکی، صہیونی اور شیعہ یلغار کے فوراً بعد اس منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ چند ماہ قبل دمشق میں ایران اور شام نے دفاعی معاہدہ کیا ہے جس میں حزب اللہ اور کچھ فلسطینی جماعتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ عراقی شیعہ تنظیموں نے بھی اتفاق کیا ہے۔ اس طرح یہ نیا نظام غیبت قسم کے سرطان کی طرح چاروں طرف پھیل گیا ہے اور اس نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیئے ہیں۔ اس سازش کا خطرہ ملت اسلامیہ کے لئے یہودی خطرے سے بھی بڑھ کر ہے چونکہ اس منصوبے کو علاقے میں نہایت مناسب ڈھال حاصل ہے اور یہ مسلمانوں میں درپردہ کام کر رہا ہے اس لئے یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور عام مسلمانوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مسئلہ فلسطین سے بڑھ کر کوئی مناسب چھتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہ فلسطینی آزادی کی آڑ میں اپنے مجرمانہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں جبکہ اس منصوبے کے کفریہ شریک شیعہ مقاصد لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں۔ اس منصوبے کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم عرب اور عالم اسلام میں شیعہ مذہب کو غلبہ دے دیا جائے اور خصوصاً شام و عراق میں شیعہ رافضی مذہب کی بھرپور ترویج کر دی جائے۔

3- رہا یہ مسئلہ کہ لبنانی رافضہ حزب اللہ اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ اس وقت ہی کیوں چھیڑی گئی (جبکہ عراق میں جنگ جاری ہے) تو اس کی متعدد وجوہات ہیں۔

1- عراق میں جاری شیعہ کی مجرمانہ کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے یہ کھیل کھیلایا گیا تاکہ لوگوں کی توجہ عراق میں شیعہ ملیشیا کی خونی وارداتوں کی طرف مبذول نہ ہو۔ شیعہ ملیشیا فلسطینی مجاہدین کی قتل و غارت اور جنوبی عراق کے سنی مسلمانوں کو زبردستی ہجرت پر مجبور کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ان کے اسی ظلم و جبر کی وجہ سے بصرہ میں صرف سات فیصد سنی مسلمان رہ گئے ہیں جبکہ بصرہ میں کئی دہائیوں سے سنی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ حتیٰ کہ امریکی قبضے سے پہلے بھی ان کی تعداد 40 فیصد تھی۔ یہ سارا ظلم اس حکومت ایران کے دور میں ہو رہا ہے جس کا وزیر اعظم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا نعرہ لگا تا رہتا ہے اور شیطان اکبر امریکہ سے

جہاد کے دعوے کرتا ہے۔

یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ اہل سنت مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی مجاہدین وہی ہیں جو عراق، افغانستان اور چیچنیا میں شجاعت و بہادری کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ اسی طرح فلسطینی تحریک آزادی بھی سنی مسلمانوں کی ہے اور اس نے دنیا کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ وہ علاقے میں اکیلی ہی علم جہاد بلند کئے ہوئے ہے۔ یہودیوں کے خلاف سنی مجاہدین کی دلیرانہ کارروائیوں نے شیعہ کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ حملہ اور کفار کے ایجنٹ ہیں اور اس سے ان کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی تھی اس لئے کوئی ایسی کارروائی کرنا ناگزیر ہو گیا تھا جس سے شیعہ تنظیم کا اعتماد و اعتبار بحال ہو سکے اور ان کے مجرمانہ کردار پر پردہ ڈالا جاسکے۔

2- حزب اللہ کا اپنے حلیف ایران کے ساتھ عراقی مجاہدین کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل ہونا منکشف ہو گیا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ حزب اللہ عراقی شیعہ ملیشیا کو تربیت دے رہی ہے اور یہی ملیشیا فلسطینیوں اور عراقی سنی مسلمانوں کے قتل و غارت میں پیش پیش ہیں۔ ان رسوا کن اعمال پر پردہ ڈالنے کے لئے لبنانی جنگ چھیڑی گئی۔

3- جنگ کو اس وقت شروع کرنے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ شام اور لبنان میں شیعہ حیلے ناکام ہو رہے تھے۔ امریکی اتحاد میں شامل ایرانی صفوی شیعہ ارکان کے مؤقف سے شیعہ تحریک کمزور ہو رہی تھی۔ پھر عراق میں امریکی اور ایرانی منصوبوں میں باہمی اختلافات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔

اس لئے ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا کام شروع کیا جائے جو عراقی شیعوں کے جرائم پر پردہ ڈال سکے۔ عراقی شیعہ ملیشیا اہل سنت مسلمانوں اور فلسطینی مہاجرین کے خلاف جو مجرمانہ کارروائیاں کر رہی تھیں انہیں چھپایا جاسکے۔ نیز فلسطینی تحریک آزادی کی کامیابیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاسکے جس نے یہودیوں کو عاجز و بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لئے یہ کارروائی کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ شیعہ تبلیغی کارروائیوں پر اعتماد کو بحال کیا جاسکے۔

اس طرح ایران کے وزیر اعظم محمود احمدی نژاد کے جھوٹ پر اعتماد بحال کرنا بھی مقصود تھا کہ ایران اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا اور یہودیوں کا مقابلہ کرے گا۔ عراق میں حزب اللہ کی تحریک آزادی کی مخالفت پر پردہ ڈالنا بھی مقصود تھا نیز لبنان میں امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورت حال کو بگاڑنا مقصود تھا جس

کی دھمکی شامی حکمران بشار الاسد دے چکا تھا۔

ان تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لئے حزب اللہ نے یہودی اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی کیونکہ حزب اللہ ایرانی شیعہ منصوبے کا تیسرا رکن ہے کیا ہم یہودی دشمنوں کے خلاف جنگ کے خلاف ہیں؟ جی نہیں۔ کبھی بھی نہیں۔ ہم ہر اس کارروائی پر خوش ہوتے ہیں جو غاصب یہودیوں کو نقصان پہنچائے، انہیں کمزور کرے اور ان کی دہشت میں کمی کا باعث ہو۔

لیکن ہم کسی بھی کارروائی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتے۔ ہم یہ بات کبھی قبول نہیں کریں گے کہ یہ کارروائی ہمارے علاقے میں یہودی منصوبے سے زیادہ خطرناک ایرانی شیعہ منصوبے کو کامیاب بنانے کے لئے مددگار بن جائے۔ ہم یہ بھی قبول نہیں کریں گے کہ یہ کارروائی کرنے والے مسئلہ فلسطین کی قیمت پر یہ کارروائی کریں۔

حالانکہ وہ عین اسی وقت بغداد میں فلسطینی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے اموال لوٹ رہے ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں۔ ہم یہ کبھی قبول نہیں کریں گے کہ ایرانی صفوی شیعہ شام اور لبنان کا امن و ایمان اپنے گھٹیا مقاصد کے لئے برباد کر دیں۔ ہم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایرانی شیعہ اشتعال انگیزی پر یہودی لبنان کو تباہ و برباد کر دیں، لبنانی عوام بچوں اور عورتوں کے خون سے ہولی کھیلیں۔

ہم یہ بھی قبول نہیں کریں گے کہ ایرانی شیعہ نئے روپ میں فریب و دھوکہ دہی سے ہمیں یہ باور کرائیں کہ وہ مزاحمتی تحریک ہیں۔ حالانکہ وہ سر عام دن دیہاڑے سب کے سامنے امریکی اور یہودی منصوبوں کی تکمیل کی راہیں ہموار کر رہے ہیں ہم یہ بھی قبول نہیں کریں گے کہ کسی بھی وقت ہمارے عراقی مسلمان بھائیوں کے قتل و غارت سے اور شیعہ جرائم سے ہماری نظریں ہٹائی جاسکیں۔

ہم یہ بھی قبول نہیں کریں گے کہ یہ گھناؤنی کارروائی شیعہ ایٹمی بم بنانے کے لئے وقت کے حصول کے لئے استعمال کی جائے، جو کہ بننے کے بعد عربوں اور مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ یہ خبیث شیعہ بم مسلمانوں کے اموال، عزتوں اور پراپرٹی کی تباہی کے لئے ہی استعمال ہوگا۔

پوری تاریخ کی ورق گردانی کر لیجئے آپ کو کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں ایرانی شیعہ نے یہودیوں یا ”شیطان اکبر“ امریکہ کے خلاف معرکہ آرائی کی ہو۔ پوری تاریخ میں ایسا ایک لفظ بھی

نہیں مل سکے گا بلکہ تاریخی اوراق پر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ایران عراق جنگ کے دوران ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگی اسلحہ حاصل کرتا رہا ہے جسے رسوائے زمانہ ”ایران گیٹ“ کا نام دیا جاتا ہے۔

یہی وہ ایران ہے جو آج نئے شیعہ صفوی توسیعی منصوبے کو چلا رہا ہے۔ یہ ایران ہی ہے جو امریکہ کو عراق کے خلاف ابھارتا ہے اور اب امریکی قبضے کے استمرار کے لئے ہر طرح کی خدمت بجالا رہا ہے۔

یہ ایران ہی ہے جو حزب اللہ کو لبنانی تباہی اور امن و امان کو غارت کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایران ہی ہے جس کی لچائی ہوئی نظریں مسلسل خلیج عربی پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ ایران ہی ہے جس نے عرب امارات کے تین جزائر پر غلامانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ایران ہی ہے جو فلسطینی تحریکوں کو اپنے مقاصد کے لئے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اگرچہ عربی اور اسلامی علاقوں کا امن و امان غارت ہی ہو جائے۔

3۔ اس آخری نکتے میں ہم مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ناامیدی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگرچہ یہ واقعات سخت اذیت ناک اور تکلیف دہ ہیں لیکن شاید کہ یہ واقعات وحادثات روشن صبح کی نوید لے کر آئیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز مجرموں کی رسوائی اور ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور موحّد مومنوں کے موقف اور سچائی اور ثابت قدمی کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے پہلے اس قسم کی آزمائشوں کا آئنا لازمی بات ہے۔ جس میں سچے مومن، کافروں اور منافقوں سے ممتاز ہو جائیں اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ الگ ہو جائیں تاکہ جو ہلاک و برباد ہونا چاہتا ہے وہ دلائل کے ساتھ برباد ہو اور جو زندہ رہے وہ دلائل کو جان کر زندہ رہے۔

موجودہ حالات اسی طرف جارہے ہیں۔ اس تیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت نہیں آتی۔ ایک چیز اور ہے جو دلوں میں آس کے دیئے جلاتی ہے اور مجرموں کے خوف زعب اور مکرو فریب کو دور کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيَفْشَرُهُمْ
لَهُمْ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُخْشَرُونَ. (سورة الانفال، آیت نمبر 36)

”بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ (لوگوں کو) اللہ

کے راستے سے روکیں تو وہ ابھی (اور) مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کئے جائیں گے۔“

عین ممکن ہے کہ یہ حادثات کے شعلے جو رافضی شیعہ نے اپنے مذموم مقاصد کے لئے بھڑکائے ہیں یہ انہی کے گلے پڑ جائیں اور ان کے مجرمانہ منصوبوں کے خاتمے کی ابتدا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تو یہی ہے کہ باحق اور اہل حق کے لئے ہے اور باطل اور اہل باطل مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَلْمُغُهُ فَإِذَا هُوَ رَاحِقٌ ۖ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.
(سورة الانبياء، آیت نمبر 18)

”بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ پھر یکا یک وہ (باطل) ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور تمہارے لئے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بناتے ہو۔“
نیز ارشاد ربانی ہے۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْفَقُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

”اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔“ (سورة الرعد، آیت نمبر 17)

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اہل حق میں شامل فرمائے اور اہل حق کا مددگار بنائے۔ اُمت محمدیہ کا رشد و ہدایت والا معاشرہ مضبوط و مستحکم ہو جس میں اُمت محمدیہ کا دوست عزت دار ہو اور اس کا دشمن ذلیل و رسوا ہو۔ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔

والحمد لله رب العالمين.

تحریر: پروفیسر عبدالعزیز بن ناصر الجلیل

تاریخ: 1427/6/29ھ

بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔
آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکنے والا کوئی شخص
بیت المقدس کو ہرگز آزاد نہیں کرا سکتا۔

تحریر: پروفیسر محمد البراک

آج امت مسلمہ اشتعال انگیز جنگوں میں گھری ہوئی ہے جن کا شروفساد چار سو پھیلا ہوا ہے۔ ان جنگوں نے امت مسلمہ کا نظام بکیر کر رکھا ہے اور اس کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ یہ شرانگیز خونی جنگیں کافرو فاجر قوم کی قیادت میں لڑی جا رہی ہیں جو مومنوں کے ساتھ کسی رشتہ داری یا عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔

آج فلسطین کی مبارک سرزمین زخموں سے پھر پھر رہی ہے۔ اس کی صبح اور شام دردناک اذیتوں، غمناک تصاویر، رنج و الم میں ڈوبے مناظر، معصوم بچوں کی چیخ و پکار، ہر طرف ظلم و ستم کی آوازوں، دکھی ماؤں کی چیخوں اور یتیم بچوں کی آہوں اور سسکیوں میں ہوتی ہے۔

اس کے لیل و نہار صفوں میں رکھے دور تک پھیلے کفنوں، جنازوں، منہدم شدہ گھروں، عزتوں کی محرومی پر ہو رہے ہیں۔ ایسے ایسے ہولناک حادثات ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر سن کر دل خون کے آنسو روتا اور جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور ان کی ہولناکی اور دہشت سے دل کانپ اٹھتے ہیں۔

دجلہ اور فرات کی سرزمین اللہ کے سامنے اپنے دکھوں کی داستان سجائے ہے۔ وہ بچی کے دوپاٹوں میں بُری طرح کچلی جا رہی ہے۔ ایک طرف حملہ آور ظالم یہودی ہیں تو دوسری طرف دشمنی میں غرق رافضی شیعہ ہیں۔

فلسطینیوں کے گھر برباد کر دیئے گئے ہیں ان کی مساجد گرا دی گئی ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ ان کے مال و جان کو لوٹ لیا گیا ہے اور ان کے گھروں میں صلیبی جھنڈے لہرا دیئے گئے ہیں۔ یہ حادثات مسلمانوں کو پکار پکار کر مدد کے لئے بلا رہے ہیں۔ چیخ و گریہ کرنا اپنی مدد کے لئے نکلنے

کے لئے کہہ رہے ہیں۔

کوئی ہے جو اس مظلوم پکار کا جواب دے؟

کوئی ہے جو ان خون آلود معذروں کی فریاد زری کرے؟

احل الکفر بالاسلام ضیما بطول به علی الدین النحیب

فحق ضائع و حمی مباح و سیف قاطع و دم صیب

و کم من مسلم امسی سلیبا و مسلمة لها حرم سلیب

و کم من مسجد جعلوه دیراً علی محرابه نصب الصلیب

امور لو تاملهن طفل لشارفی مفارقه المشیب

انسبی المسلمات بكل ثفر و عیش المسلمین اذا یطیب

امالہ و الاسلام حق یدافع عنه شبان و شیب

فقل لذوی البصائر حیت کانوا اجیوا اللہ و یحکموا اجیوا

1- کفر نے اسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں۔ شرافت و نجابت کے دین پر حملہ آور ہو گیا ہے۔

2- حقوق ضائع ہو رہے ہیں، گھروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تلواریں کاٹ رہی ہیں اور خون سیل رواں کی طرف بہہ رہا ہے۔

3- کتنے ہی مسلمان مرد لٹ گئے ہیں اور کتنی ہی مسلمان عورتوں کے گھر چھین لئے گئے ہیں۔

4- کتنی ہی مساجد کو انہوں نے گر جا گھر بنا لیا ہے اور مساجد کے محرابوں میں صلیب لٹکا دی ہے۔

5- ایسے ایسے دہشت ناک واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر بچہ بھی ان پر غور کرے تو اس کے بالوں میں بڑھاپا آ جائے۔

6- کیا اسی طرح ہر سرحد پر مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا رہے گا؟ کیا اس حال میں مسلمان خوشگوار زندگی گزار سکیں گے؟

7- خبردار! اللہ اور اسلام کا بھی حق ہے۔ مسلمان نوجوان اور بوڑھے اس کا دفاع کب کریں گے؟

8- ہر اہل بصیرت و عقل و دانش کو کہہ دو کہ وہ جہاں بھی ہوں، اللہ کے حق کے دفاع کے لئے آ جائیں۔

اے حکمرانو! تم بھی اس پکار پر لبیک کہو۔

ان خوفی حادثات کے سمندر میں، پے در پے دکھوں اور مصیبتوں اور دہشت ناک پریشانیوں میں مسلمان اس دردناک صورت حال سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نجات دہندہ کی راہ تکتا رہے ہیں جو انہیں اس ذلت و رسوائی سے نکالے، کسی رہنما کا انتخاب کر رہے ہیں جو ظلم و طغیان کے اس سیلاب کے سامنے بند باندھے، دشمنوں کے حملے کو روکے اور بہتے خون کی ندیاں بند کر سکے۔

ان حالات میں جبکہ مسلمانوں کی پریشانیاں اور مشکلات چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اصل معاملے کی خبر نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پا رہے۔ وہ جس شخص کو ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے اسے عظمت و شرف دے دیتے ہیں اور جو بلندی کا حقدار ہوتا ہے اسے پستیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔

جب صبح روشن ہوگی اور ہر معاملہ صاف دکھائی دینے لگے گا تو وہ ندامت و شرمساری سے اپنی انگلیاں چپائیں گے مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہمیں شاعر وادیب احمد شوقی کا وہ قصیدہ نہیں بھولنا چاہئے جو اس نے مصطفیٰ کمال اتاترک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے لکھا تھا۔ اس نے اسے فقرہ کا تاج قرار دیا تھا اور آستانے کو عزل کرنے والا قرار دیا تھا۔ یعنی کمال اتاترک کا تاج اور سلطنت و خلافت کو ختم کرنے والا قصیدہ۔ جب اتاترک نے یونان کے ساتھ اپنی ڈرامائی جنگ کا دعویٰ کیا تو احمد شوقی نے اپنے مشہور شعر کہے تھے:

اللہ اکبر کم فی الفتح من عجب
یا خالد التورک جدد خالد العرب
یسوم کبدلر فخیل الحق راقصة
علی الصعید و خیل اللہ فی السحب

”اللہ اکبر، فتح میں کتنے عجوبے ہیں۔ اے ترکی خالد، عربی خالد بن ولید کی یاد اور اس کے کارناموں کی یاد تازہ کر دے۔ جب بدر کی تاریخ دہرا دو، حق کے گھوڑے میدانِ جہاد میں جو رقص ہیں اور اللہ کے گھوڑے میدان میں موجود ہیں۔“

لیکن جب احمد شوقی کو معلوم ہوا کہ ترکی خالد نے عربی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کرنے کی بجائے عربوں اور ترکوں کی عظمت و شان کو مناکر کر رکھ دیا ہے تو وہ سخت نادم و شرمندہ ہوا۔

اس سے بھی بڑھ کر افسوس ناک بات یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں لوگ ہر چہچہنے والے کی آواز پر

کان دھریلتے ہیں اور ہر نا اہل، کم عقل و بے بصیرت شخص امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل میں رائے زنی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی سے منور داعیانِ حق کو لوگ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔

حالات کتنے ہی دگرگوں کیوں نہ ہوں، اور معاملات کیسے ہی بگڑے ہوں، مگر اہل حق کے داعیان کتنے ہی مستعد اور مصروفِ عمل ہوں، اہل حق پر واجب ہے کہ وہ دین حق کی تبلیغ پر زور طریقے سے کریں اور حق کو واضح کریں اگرچہ لوگ اہل باطل داعیان اور ان کے مؤیدین سے کتنے ہی متاثر کیوں نہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورہ الانعام، آیت نمبر 55)

”اور ہم اسی طرح آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مژموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔“

یعنی ہم آپ کو توحید و رسالت کے معاملے سے خبردار کریں گے اور عقیدے کی بنیادوں سے باخبر کریں گے تاکہ آپ کو حق و باطل، اور ہدایت و گمراہی میں فرق معلوم ہو جائے۔

اسی لئے ہر داعی، عالمِ دین اور طالبِ علم پر لازمی ہے کہ وہ لوگوں کو عقائد اور مذہب کے قواعد و ضوابط کی تعلیم دے۔

بلاشبہ فلسطین اور لبنان میں یہودی بربریت ایسی ننگی جارحیت ہے جسے کوئی مذہب یا عقل تسلیم نہیں کرتی اور نہ کوئی صاحبِ ضمیر اس پر راضی ہو سکتا ہے۔ لیکن کلمہ حق کہنا اور گمراہ کرنے والے داعیان سے ڈرنا اور بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے داعیان جو خوشنما بینرز اور جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں جبکہ ان کے سینے کفر و عداوت سے جوش مار رہے ہوتے ہیں، وہ اہل حق کی غیر موجودگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

مسائل کو سمجھنے کی ایک غلطی یہ ہے کہ جب کسی شخص کو رافضی شیعہ سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اسے یہودیوں کی حمایت سمجھنے لگتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ ڈرانے والا شخص یہودیوں کا دوست ہے یا یہ شخص یہودیوں کے ظلم و بربریت پر خوش ہے جو بلا تفریق معصوم بچوں، بوڑھوں اور کمزور عورتوں کو قتل کر رہے ہیں۔

اور وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو بوڑھوں، عورتوں اور معصوم بچوں کے کٹے پٹے اعضاء اور بہتے خون پر

کوئی دکھا اور صدمہ نہیں ہے۔

یہ نہایت غلط سوچ ہے کیونکہ اسلام نرم دلی، رحمت اور شفقت کا دین ہے۔ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں پر حرام کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ جنگ میں غیر جنگجو افراد کو قتل کریں یا ان پر ظلم ڈھائیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کا نام لے کر (جہاد پر) روانہ ہو جاؤ، اللہ کی توفیق اور رسول اللہ ﷺ کی ملت پر روانہ ہو جاؤ۔ کسی بوڑھے بزرگ آدمی کو قتل نہ کرنا، نہ کسی بچے، شیر خوار اور عورت کو قتل نہ کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور نہ اسے اپنے پاس جمع کرنا، اصلاح کے کام کرنا اور نیکی کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت رباح بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔ ہم ایک غزوے میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کے گرد جمع ہیں۔ آپ ﷺ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ یہ لوگ کس چیز پر جمع ہیں۔ اس نے آ کر بتایا کہ یہ لوگ ایک مقتول عورت پر جمع ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ یہ عورت جنگجو نہ تھی (پھر کس لئے قتل کر دی گئی) وہ فرماتے ہیں۔ جنگ کے ہراول دستے کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے آپ ﷺ نے ایک آدمی کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کسی عورت یا غلام (نوکر) کو ہرگز قتل نہ کرے۔

یہ ہیں اسلام کی رحمدلانہ تعلیمات جو دشمنوں سے بھی نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ اس لئے کافروں کا کفر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان پر ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھیں اور ان کو جس طریقے سے چاہیں قتل کریں۔ اس لئے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اہل دین کو اذیتیں دیتے ہیں، لیکن وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

حزب اللہ اور شیعہ سے بچنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو عقیدہ توحید کو جانتا ہے خصوصاً اس دور میں جبکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ان کے عقائد سے جا مل ہونے کی بنا پر ان کے دھوکے میں پھنس چکی ہے۔ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے محافظ ہیں، اسلام اور عقیدہ توحید کی خاطر وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور دین اسلام

کی مدد کر رہے ہیں تو حق اور باطل خلط ملط ہو جاتا ہے۔ ان کے باطل شعارات سے بہت سے لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور بعض اوقات بعض جاہل ان کے کفریہ شرکیہ عقائد کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔

جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، ان میں ایک عالم ربانی کا قصہ یاد کرنا بھی سودمند ہوگا جس نے رافضی عبیدی حکمران المعز کے سامنے کلمہ حق نہایت جرأت مندی کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اس نے رافضیوں کے خوشنما پر فریب شعارات سے دھوکے کھائے بغیر، ان کی سخت سزاؤں کی پروا کئے بغیر، ان کے نام نہاد جنگجوؤں سے خوف کھائے بغیر کلمہ حق ادا کیا تھا اور اس سلسلے میں کسی گلی لپٹی کی پروا نہ کی، حتیٰ کہ اس جرأت کی جزا زندگی کی قربانی کی صورت میں قبول کر لی۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ عبیدی شیعہ حکمران المعز کے حالات زندگی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ المعز جس کی دعویٰ تھا کہ فاطمی ہے۔ جب وہ اسکندریہ آیا تو شہر کے معززین سے ملا۔ اس نے انہیں بڑا مبلغ خطبہ دیا جس میں کہا کہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر رہے گا۔ اور اپنے نسب نامے پر بڑا فخر و غرور کیا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عبیدیوں اور قاطیوں کے ذریعے سے امت اسلامیہ پر بڑا رحم کیا ہے۔ حالانکہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر رافضیت میں غرق تھا۔

جیسا کہ قاضی الباقلائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”عبیدیوں کا مذہب خالص کفر ہے اور ان کا اعتقاد رافضیت ہے۔ اسی طرح اس کے عوام اور اس کے مددگاروں اور دوستوں کا عقیدہ اور مذہب ہے۔ اللہ ان سب کو عارت کرے۔“

المعز نے اپنے سامنے اس دور کے زاہد، عابد، ورع اور متقی عالم ربانی ابو بکر النابلس کو حاضر کیا اور کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم کہتے ہو اگر میرے پاس دس تیر ہوں تو میں رومیوں کو نو تیر مار دوں گا اور مصری عبیدی حکمرانوں کو دسواں تیر مار دوں گا۔

امام صاحب نے جرأت سے جواب دیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ لہذا پھر پوچھا اچھا تو آپ نے کیسے کہا تھا؟

امام صاحب نے فرمایا میں نے کہا تھا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم نو تیر تمہیں ماریں پھر دسواں تیر بھی تمہیں

ہی ماریں۔

بادشاہ نے پوچھا۔ وہ کیوں؟

امام صاحب نے جواب دیا۔ وہ اس لئے کہ تم نے امت اسلامیہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، صالحین کو قتل کر دیا ہے، نور الہی کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اور ایسے مقام و مرتبے کے دعویدار بن گئے ہو جو تمہارے لائق ہی نہیں۔

یہ جواب سن کر بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اور حکم دیا کہ کل امام صاحب کو تمام لوگوں کے سامنے بطور مجرم پیش کیا جائے، اگلے دن شدید ترین کوڑے مارے جائیں، پھر تیسرے دن ان کی کھال اُتارنے کا حکم دیا۔

لہذا ایک یہودی کو کھال اُتارنے کے لئے لایا گیا جبکہ امام صاحب اس دوران قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔

وہ یہودی کہتا ہے۔ مجھے امام صاحب پر بڑا ترس آیا۔ پھر جب میں ان کے دل تک پہنچا تو میں نے ان کے سینے میں چھری گھونپ دی جس پر وہ فوت ہو گئے۔ رحمہ اللہ

انہیں شہید کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہی کی طرف بنو اشہید (شہید کے بیٹے) کی نسبت ہے۔ اہل نابلس میں آج تک ان کی اولاد اپنی نسبت ان کی طرف کرتی ہے اور ان میں آج بھی خیر و برکت باقی

ہے۔ (دیکھئے: البدایہ والنہایہ: 322/11)

فلسطین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ کیا آج یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص فلسطین کو آزادی دلا سکے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے عقیدے کی بنا پر گالیاں بکتا ہو؟

میں کہتا ہوں۔ اللہ کی قسم! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

فلسطین کو آزادی دلا کر اسلامی مملکت بنانا انہی لوگوں کا کام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں، ان کے لئے اللہ کی خوشنودی کی دعائیں کرتے ہیں اور عرفار و ق کی سیرت و کردار کو اپناتے ہیں۔

رہے صحابہ کرامؓ کے دشمن اور عرفار و ق رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکنے والے، تو اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ لوگ امت اسلامیہ کی تباہی و بربادی ہی میں اضافہ کریں گے، ان سے حسرت و

ندامت کے سوا کچھ حاصل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ جب حالات ان کے موافق ہوں گے تو یہ اپنے خونی

نوکیلے دانت اُمت کو دکھائیں گے اور اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔

اس وقت یہ لوگ اپنی دشمنی کا اظہار سر عام کریں گے اور اپنا غیض و غضب اہل سنت پر نکالیں گے، اہل سنت کی اراضی چھین لیں گے، ان کی عزتوں کو لوٹ کر انہیں گھروں سے نکال باہر کریں گے جیسا کہ آج عراق اور ایران میں ہو رہا ہے۔

اس وقت خواب غفلت کے مزے لینے والے بھی جاگ جائیں گے اور ملت اسلامیہ کے حقوق میں کوتاہی کرنے والے پشیمان ہوں گے لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہوگا۔

اس لئے عقیدہ توحید اور کتاب اللہ کے ارشادات پر ایمان رکھنے والے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ مومنوں سے دوستی اور کافروں سے دشمنی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حزب اللہ اور اس کے قائدین سے براءت کا اعلان کرے اگرچہ اہل باطل ان کے کیسے ہی گیت گائیں اور ان کے فضائل میں زمین و آسمان کے قلابے ملائیں۔

ہر توحید پرست کو امام نابلسی ابو بکر رحمہ اللہ کا وہی جواب دہرانا چاہئے جو انہوں نے المعز العجیدی شیعہ کو دیا تھا کہ ہمیں چاہئے کہ ہم لات کے پجارتی حزب کو نو تیر ماریں پھر دسواں تیر یہودیوں کو ماریں۔

تحریر: پروفیسر محمد البراک

☆☆☆

تصویری دستاویزات



حسن نصر اللہ، اہل سنت
مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے
امریکہ اور اسلامی بیداری کی تحریکیں:
حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری

حسن نصر اللہ کے نزدیک کچھ اسلامی جماعتیں امت مسلمہ کے لئے عظیم خدمات سر انجام دے رہی ہیں جبکہ بعض دوسری جماعتیں امریکہ اور اسرائیل کی خدمات میں مصروف ہیں اگرچہ وہ اسلامی ہونے کی دعویدار ہیں۔

حسن نصر اللہ نے اس بات کی تردید کی کہ ہم متعصب ہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں اسلام کا نام لینے والوں کے ہمقدم ہیں، خواہ وہ کوئی بھی تحریک ہو یا شخصیت ہو۔ کچھ ایسی تحریکیں ہیں جو اسلامی ہونے کی دعویدار ہیں لیکن وہ شیعہ اور مختلف سنی فرقوں کو کافر قرار دیتی ہیں۔ وہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں۔ ان کا اولین مقصد ہی ہر اس شخص کو قتل کرنا ہے جو ان کے فکر و نظر اور منصوبوں سے متفق نہ ہو۔

اس نے مزید کہا کہ میں وہابی تحریک کی تحدید و تعین کر کے کہتا ہوں کہ یہ تحریک بیت المقدس کی آزادی کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ بلکہ یہ دشمن کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہے اور امریکی مفادات کی خاطر امت مسلمہ کو فتنوں میں ڈال رہی ہے۔۔۔۔ ہم تحقیق کرنے والوں سے کہتے ہیں ہم یہ بات ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ تم وہابی تحریک کو اسلامی یا اسلامی بیداری کی تحریک شمار کرو۔ [المان میگزین، شمارہ نمبر 149،

31 مارچ 1995ء]

بحرینی حزب اللہ کا ایرانی مدد سے
حکومت بحرین کا تختہ الٹنے کی کوششوں کا ثبوت



حسین المدنیق اقرار کرتا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کے لبنانی معسکرات میں جدید اسلحہ، نشانہ بازی اور بم دھماکوں کی تربیت لی تھی۔ اور تربیت کے تمام اخراجات ایرانی حکومت نے برداشت کئے تھے۔



14 مارچ 1966ء کو حزب اللہ بحرین کی بربریت اور دہشت گردی کی جھلک۔


کویتي حزب اللہ کے ايراني تعاون کے ساتھ
کويتي جہاز الجابريہ اغوا کرنے کی کہانی اخبارات کی زبانی

الوفد الكويتي وصل لمشهد للمشاركة في انصالات تحرير الجابرية
الخاصون من جماعة حزب الله

■ الإفراج عن ٢٤ سجيناً والكوييتون ما زالوا في الطائفة
■ جوارات سفوح بريتية وعراقية مؤيدة مع الخاطفين

[illegible]

جریدہ ”القبس“ 1988ء کی ہیڈ لائن:۔ اغوا کنندگان حزب اللہ کے ارکان ہیں۔ کویتی وفد مشہد پہنچ گیا ہے تاکہ جہاز کو آزاد کرانے والے وفد میں شرکت کر سکے۔ تصویریں اغوا ہونے والا جہاز دکھایا گیا ہے۔ حزب اللہ کے 37 افراد جہاز کے اغوا میں تعاون کے لئے بیروت سے ایران روانہ ہوئے۔



1988ء کو کویتی حزب اللہ نے کویت کا ”الچابریہ“ جہاز اغوا کر لیا اور پھر ایک مسافر کو قتل کر کے اس کی لاش جہاز سے نیچے پھینک دی، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔

کویت کے امیر شیخ جابر الاحمد الصباح رحمہ اللہ نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی ناکامی کے بعد ٹیلی وژن پر اعلان کیا تھا کہ یہ قاتلانہ خودکش حملہ کویتی حزب اللہ نے کیا ہے۔ کویتی امیر جناب جابر الاحمد الصباح اور شیخ صباح الاحمد نے بیان جاری کیا کہ کویت میں ہونے والے تمام بم دھماکوں میں کویتی حزب اللہ ملوث ہے۔



● سمو الأمير يتحدث من على شاشة تلفزيون الكويت

منظمة حزب الله في الكويت وراء جميع الانفجارات الأخيرة

[illegible][illegible][illegible]

• الطبخ صحاح الإصدار




● الأبرار يلبسون الألبسة البيضاء

أصبح في هذه السطور عروقت الزحف
والانتماءات التي نمت بين حين وآخر
في الكويت .. وتعلق الشكر على
الذين أنعم الله عليهم بإقامة هذا
هو عنوان وقسمه للمجلة الآن
والاستمرار في الكويت وفي بلاد
تتسبب بشفقة على ذلك علمة أيام
فقد واهم عظيمين أسعدوا فيها ناس
أخرج من السجون قتلها .. وأصبح
استطلاع الآن .. ماذا يريد من
صالحات الزميلة .. وماذا فعل
المعونة وأقر الجرم في الكويت ؟
وما تخلص عروقت الانتماء الأخيرة ؟
في الجوارح التي ..

[illegible]

تمام معلومات کا مرجع کویتی جریدہ ”القبس“ سے لیا گیا ہے۔

حزب اللہ لبنانی اور عراقی دہشت گرد تنظیم ”بدر“
کے مضبوط تعلقات کی منہ بولتی تصویر



حزب اللہ کی طرف سے بصرہ کی تنظیم بدر کو تحفے میں دی جانے والی تصویر۔

ابولولو مجوسی کی قبر پر شیعوں کا جشن



اوپر والی تصویر: ابولولو کے مزار کا مین دروازہ ہے۔



(ابولولو مجوسی وہی لعین ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس لئے شیعہ اپنے خبیث باطن کا اظہار کرنے کیلئے اس روز جشن مناتے ہیں جس روز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا)۔ تصویر کے ساتھ والے کتبے پر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ”الجبّات“ (بت یا جادوگر)، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ”طاغوت“ (شیطان) اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ”نعلش“ (زنجویا بے وقوف بوڑھا) کہا گیا ہے۔ (نعوذ باللہ)

اسرائیلی وزیر اعظم اریل شیرن کا اعتراف حقیقت کے شیعوں میں اسرائیل کا دشمن دور دور تک دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ دروز فرقتے میں بھی ایسا کوئی دشمن موجود نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک اصلی دشمن فلسطینی تحریک آزادی کے مجاہد (دہشت گرد) ہیں جنہیں شامی حکومت کی حمایت حاصل ہے۔

حتى التي اقترحت اعطاء قسم من الأسلحة التي متحتها اسرائيل، ولو كبادرة رمزية، الى الشيعة الذين يعانون هم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ومن دون الدخول في اي تفاصيل، لم أر يوما في الشيعة اعداء اسرائيل على المدى البعيد، ولا حتى في الدروز. فالطائفة الدرزية اليهودية اندمجت في كل ميادين مجتمعا، ابتداء من عالم الأعمال حتى الجيش. وقولي هذا لا يعني أنني اعتبر الطائفة السنية اللبنانية عدوانية قسرا او عدوا لدودا. فهم يعيشون معنا بسلام منذ عشرين عاما، ولا دافع يحول دون ديمومة هذا التعايش مستقبلا. أما عدونا الحقيقي الذي رأيته هنا، فيتمثل بالمنظمات الارهابية الفلسطينية « وأرض فتح » المستقلة، إضافة الى السوريين الذين يؤمنون لهم الحماية والمساعدة.

استمرّ الحديث بضع ساعات، ولكن مع حلول الظلام كان لا بدّ من إنهائه حتى أراجع الى الشاطئ لموافاة الطائرة المروحية المكلفة باعادتنا الى اسرائيل.




أرييل شارون

وعلى رغم الحرب، شهدت الطرقات حركة الى ازدياد السيارات. فكنا نراوح مكاننا على فساووني قلق بالغ بشأن موعدنا الذي انفسد.

عندما وصلت أخيرا الى منزلي في ساعة في انتظار. فبادرتني بسؤالها: « كيف وجد يفتكون الأيادي ويقتلون في نفس الوقت ».

بعيد عودتي، قدّمت الى بيغن والحكومة المواضع المعالجة بأدق تفاصيلها، وعارضنا انطباع الضعف الكامنة عند المسيحيين. ولو لم أوطأ العلاقات القائمة بين اسرائيل والمسيحيين والذين في القدس، في ١٦ شباط (فبراير) ١٩٨٢ الوزراء بشروط التدخل الاسرائيلي المسلّح في لبنان: واصل الارهابيون هجوماتهم

مکہ مکرمہ میں 1989ء کو بم دھماکے کرنے اور حجاج کرام کو قتل کرنے والے مجرموں کو شیعہ کے نزدیک شہداء اور اولیاء اللہ کا درجہ حاصل ہے



اوپر والی تصویر میں ان تمام مجرموں کی تصاویر اور نام ہیں جو حرم کی میں فتنہ و فساد میں شریک ہوئے۔



تصویر میں سعودی عرب کے شہر البخر کے رہائشی پلازے میں بم دھماکہ کرنے والے دو بڑے مجرموں کی تصاویر دی گئی ہیں۔

خمینی کا اعتراف کہ شیعہ کے نزدیک
امام مہدی منتظر کے ظہور تک کوئی جہاد نہیں ہے

ختم فیہ مسائل:

مسألة ۱- ليس لأحد تكفل الأمور السياسية كإجراء الحدود والقضائية والمالية كأخذ الخراجات والماليات الشرعية إلا لإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك.

مسألة ۲- في عصر غيبة ولي الأمر وسليطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه العامة - وهم الفقهاء الجامعون لشروط الفتوى والقضاء - مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدء بالجهاد.

مسألة ۳- يجب كفاية على النواب العامة القيام بالأمور المتقدمة مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكام الجور، ويقدر المسور مع الامكان.

مسألة ۴- يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحيات التي من تحتها عدله فيمقدار المسور الممكن.

مسألة ۵- لا يجوز التولي للحدود عن إجراء السياسات غير الشرعية، بموجب الضمان ضمن، وكان فعله معص.

مسألة ۶- لو أكرهه الجائر على الجائر ضامناً، وفي إلحاق الجرح بالقتل وقد أشرنا إليه سابقاً.

مسألة ۷- لو تولى الفقيه الجامع السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة الشرعية، والقضاء على الموازين التي التعدي عن حدود الله تعالى.

مسألة ۸- لو رأى الفقيه أن تص



خمینی کی کتاب "تحریر الوسیلہ" کا وہ صفحہ جس پر اس نے امام مہدی کے ظہور تک جہاد کے کالعدم ہونے کا تذکرہ

خمینی لعین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں ناکام ہو گئے تھے (نعوذ باللہ)




خمینی کے خطابات کا وہ صفحہ جس پر اس نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ناکام ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خاتم
لانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت و تبلیغ میں ناکام قرار دیا ہے۔

عراق میں سنی مساجد پر قبضے کے لئے
شيعی قیادت کے خفیہ حکم نامے کی نقل



نجف کے شيعی علماء السیستانی اور الحکیم نے امریکی قابض فوج کے
خلاف جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الوطن اخبار کی رپورٹ



کویت میں شیعہ مرجع المہدی، سنی تحریک حماس کو ہر قسم کی امداد دینا حرام قرار دیتا ہے

خمینی کا حسن نصر اللہ کے نام اتھارٹی لیٹر
کہ حسن نصر اللہ لبنان میں خمینی کا وکیل بن کر مالی معاملات اور شیعہ کے معاشرتی مسائل حل کرے گا۔

التفويض، التفويض الخميني في أخذ الأموال وغيره،
الزمان: ١٣٦٠ هـ.س. ١٤٠١ هـ.ق.
المكان: طهران، جماران.
الموضوع: التفويض في الأمور الحسبية والشرعية.
المخاطب: سيد حسن نصر الله - لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين. وبالله
حجة الإسلام الحاج السيد حسن نصر الله دامة إفاضاته
فإنكم من طرفنا مأذون في التصرف في الأمور الحسبية والشرعية ومقالات العباد
والزكوات والكفارات وصرفها في مصارفها المقررة الشرعية.
وكذا في السهمين المباركين الإمام الغائب، و صرفها لشخصكم مقتصدًا في ذلك. وما
زاد فلكم صرف نصفها للسادات العظام. كثر الله أمثالهم. وفي نشر الدعوة المقدسة.
وإرسال النصف الثاني إلينا.
وألوصيه - أيده الله تعالى - بما أوصى به السلف الصالح من ملازمة التقوى والتجنب
عن الهوى والتمسك بعروة الاحتياط في أمور الدين والدنيا، وأن لا يتساني من صالح
دعواته.
والسلام عليه وعلى إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

روح الله الموسوي الخميني

”اتھارٹی لیٹر“ زکوٰۃ صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لئے خمینی کا اتھارٹی لیٹر۔



قتل وتشريد الفلسطينيين في العراق. فشل هذه هي نصرته القضية الفلسطينية
وتحرير بيت المقدس الذي يزعم الشيعة الإمامية السعي لتحريره من الاحتلال



حسن نصر اللہ کی ایران اور ایرانی
حکمرانوں کے ساتھ والہانہ محبت کے مناظر
[جو کسی تھرے کے محتاج نہیں]



ایرانی نائب رئیس محمد علی ابطحی کا اعتراف حقیقت
”اگر ایرانی حکومت کی خصوصی امداد شامل نہ ہوتی تو کابل اور بغداد کبھی فتح نہ ہوتے۔“




بدور ایران في
إسقاط الحكومات
في أفغانستان
والعراق!!

شیعہ امامیہ کے مراجع علماء اور امریکی یہودی
اراکین کے محبت والفت کی گہری داستان



عراقی علمائے اہل سنت کے قتل کے لئے شیعی بدر تنظیم کا خفیہ پلان



صورة الشيخ حسن النعمي هيئة علماء المسلمين بعد تعذيبه و اتياله رحمه الله

صورة أحد علماء السنة بالعراق بعد ان مثل بجثته رحمه الله



عالم اسلام میں تشیع کی نشر و اشاعت کے لئے شیعی خفیہ منصوبے کی تفصیل

عراق میں اسلامی انقلابی مجلس اعلیٰ کی طرف سے تمام مکاتب اور ذیلی برانچوں کے قائدین کے لئے رخصیہ اور فوری حکم۔

ایران کے ”اسلامی انقلاب“ کے مرشد اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہ ای کی ہدایات اور نگرانی میں نیز شیعی شعار ”علی کے شیعہ ہی غالب ہوں گے“ کے تحت قم شہر میں شیعی مجلس مشاورت کا اجلاس ہوا تاکہ عالم اسلام میں تشیع کی نشر و اشاعت کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس اجلاس میں تمام جماعتوں کے قائدین مراجع، حوزات کے لیڈر دینی اور سیاسی قائدین اور بائین نے شرکت کی۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کے بعد درج ذیل سفارشات پر اتفاق کیا گیا ہے۔

- 1- ایک عالمی شیعی تنظیم کی ضرورت محسوس کی گئی ہے جس کا نام ”مستطمة مؤتمرا لشیعی العالمی (عالمی شیعی مجلس مشاورت) ہوگا۔ اس کا ہیڈ آفس ایران میں ہوگا اور اس کی برانچیں پوری دنیا میں ہوں گی۔ تنظیم کی کمیٹیاں اور ان کے فرائض طے ہوں گے اور مجلس کا اجلاس ہر مہینہ ہوگا۔
- 2- ہر ملک کی موجودہ حالت کا تحقیقی جائزہ لیا جائے گا اور عراق میں ہمارے کامیاب تجربے سے استفادہ کیا جائے گا۔ پھر باقی ملکوں میں اسے لاگو کیا جائے گا۔ ان میں اہم ترین سعودی عرب ہے جو وہابی کافروں کا قلعہ ہے۔ اردن ہے جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح یمن، کویت، مصر، امارت، بحرین، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں اسے لاگو کیا جائے گا۔ خمینیہ اور عشرینیہ منصوبوں پر فوری عمل شروع کیا جائے۔ (یعنی بیچ سالہ اور دس سالہ پلان پر فوری عمل شروع کر دیا جائے۔)
- 3- پوری دنیا میں تمام تنظیموں اور جماعتوں کی غیر سرکاری عسکری فوج بنائی جائے یہ کام عسکری اداروں میں اپنے افراد داخل کر کے، امن و امان کے اداروں، جاساس اداروں میں داخل کر کے کیا جائے۔ ان کے لئے خصوصی بجٹ مقرر کیا جائے اور انہیں ہمارے سعودی، یمن اور اردنی بھائیوں کے تعاون کے لئے تیار کیا جائے۔
- 4- ہر میدان میں عورتوں کے تمام وسائل اور ذرائع سے بھرپور استفادہ کیا جائے، تاکہ تمام جغرافیائی

اختتام

اس مختصر وقت میں جلدی کے ساتھ میں نے یہ مواد جمع کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے جو حزب اللہ کے حقیقت حال کو منکشف کرنے کے لئے ہے۔ مجھے امید ہے کہ متلاشیان ہدایت کے لئے یہ کتاب رہنما ہوگی۔ ان شاء اللہ۔ اگر میں حزب اللہ کے مکر و فریب اور گمراہیوں کو ان کے اپنے افراد کی زبانی تفصیل سے بیان کرتا تو میرا قلم خوب جولانی میں چلتا لیکن میرے خیال میں میں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہی کافی ہے۔ جو شخص تفصیل کا خواہش مند ہو تو وہ دیگر مصنفین کی کتب سے رجوع کرے۔ جن کی اکثریت انٹرنیٹ پر ہے۔ میں یہ بات اس شخص کیلئے کہہ رہا ہوں جو حق کی تلاش میں ہے اور اس کا دل مطمئن ہے۔ لیکن جس شخص نے اس جماعت کی حقیقت سے چشم پوشی کی ہوئی ہے اور وہ صرف، یہودیوں کے خلاف اس کی مکارانہ جنگ ہی کو کارنامہ سمجھ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا بجا کر اس جماعت کو داد دے رہا ہے اور اپنی زبان سے اس جماعت کی تعریفیں کر رہا ہے تو اسے صرف اتنا کہیں گے۔ اے مسکین! تم یہودی ریاست کے خاتمے کی دعائیں کر رہے ہو اور ایک ایسی حکومت کے قیام کی دعائیں مانگ رہے ہو جو اہل السلام اور اہل سنت پر یہودیوں سے بھی زیادہ سخت دشمن ہیں۔

وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین وصلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين۔

اہداف میں انہیں استعمال کیا جاسکے۔ تربوی اور تعلیمی نوکریوں کو حاصل کیا جائے۔

5- تمام مذاہب اور قوموں کے ساتھ عملی ہم آہنگی پیدا کرنا اور ان سے مکمل فائدہ اٹھانا تاکہ پوری دنیا میں شیعہ مقاصد کے حصول میں ان سے مدد ملی جاسکے اور ان کے ساتھ نسلی تعصب سے اجتناب کیا جائے تاکہ شیعہ مصلحت کو نقصان نہ ہو۔

6- عام دینی شخصیات کا قتل اور ان کی صفوں میں جاسوس شامل کرنا تاکہ ان کے منصوبوں کی اطلاع ہو سکے۔

7- تمام دینی حوزات اور مراجع کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماہانہ رپورٹ اور سالانہ منصوبہ سازی کریں اور مجلس کو آگاہ کریں کہ ان کے ممالک میں کیا کیا رکاوٹیں پیش ہیں اور کیا کیا کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ تشیع کے پھیلاؤ کے لئے مفید تجاویز بھی ارسال کریں۔

8- مجلس کے عسکری، اعلامی اور اداری معاملات کے لئے عالمی مالی بینک کا قیام۔ یہ مجلس کے زیرِ تحت کھولا جائے گا جس کی ذیلی برانچیں پوری دنیا میں ہوں گی۔ اس میں حکومتوں، مالدار تاجروں، زرکوة ختمس اور تمام جمیعات اور تنظیموں سے مال جمع کر کے رکھا جائے گا۔

9- ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو پوری دنیا میں مجلس کے منصوبوں کو مربوط کرے گی اور اس کے امور کو چلائے گی۔

10- تمام ممالک، حکومتوں اور جماعتوں کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کے خلاف ہر میدان میں جنگ چھیڑی جائے گی خصوصاً اقتصادی جنگ۔ اس میں ایرانی برآمدات کو فروغ دینے اور سعودی، اُردنی، شامی اور چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی ترغیب دی جائے گی۔

اسلامی انقلاب کی مجلس اعلیٰ کے سیاسی دفتر سے نشر ہوا۔

شیعہ رافضہ کی حقیقت اور ان کی سیاہ تاریخ جاننے کے لئے درج ذیل کتب کا مطالعہ کریں

- 1- حقیقة المقاومة (تحریک مزاحمت کی حقیقت) تالیف: عبدالمعتم شفیق۔
 - 2- حیانات الشیعة وأثرها فی هزائم الأمة الاسلامیه (شیعہ کی خیانتیں اور امت مسلمہ کی شکست میں ان کے اثرات) رعماد حسین۔
 - 3- أثر الحركات الباطنية فی عرقلة الجهاد ضد الصليبيين / يوسف الشيخ عبد (باطنی شیعہ تحریکوں کا یہودیوں کے خلاف جہاد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا) وجاء دور المحسوس (مجوسی دور واپس آ گیا) عبداللہ الغریب۔
 - 5- (أمل) والمخيمات الفلسطينية (شیعی تنظیم امل اور فلسطینی پناہ گزین کیمپ) مؤلف: عبداللہ الغریب۔
 - 6- أحوال أهل السنة فی ایران (ایران میں اہل سنت کے حالات) عبداللہ الغریب۔
 - 7- الحمینی والوجه الآخر (شینئی کا دوسرا چہرہ) رزید العیسیٰ۔
 - 8- الاعتداءات الباطنية علی المقدسات الاسلامیه (اسلامی مقدس مقامات پر شیعہ باطنیہ کے ظلم) رکامل الدقس۔
 - 9- ہر تو کولات آفات قم حول الحرمین (قم کے علماء کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعلق خفیہ سازشی منصوبے) رعباللہ الغفاری۔
 - 10- الصفویون والدولة العثمانیه (دولت عثمانیہ کے خلاف شیعوں کا کردار) مؤلف: علوی عطرجی۔
 - 11- الحمینیہ ورثیة الحركات الحاقدة / ولید الأعظمی۔
 - 12- حتی لاننجدع (تا کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں) رعباللہ الموصلی۔
 - 13- علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔
- 1- الشیعة والتشیع 2- الشیعة والسنة 3- الشیعة والقرآن..... وغیرہ



۱۔ ”اسرائیل نے شیعہ عناصر کی نگہداشت کر لی ہے، انہوں نے فلسطینی وجود کا تہہ کرنے کے لئے ان کے ساتھ ہتھیار کر لیا ہے۔ اور حماس اور جہادی تحریکوں کے لئے اندرونی سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔“

ضابطہ اسرائیلی من المخابرات۔ (صحیفہ معاریف) اليهودیہ فی تاریخ ۹/۸/۱۹۹۷ء۔

۲۔ ”اسل تحریک کا ضمنی پروگرام مسلح فلسطینیوں کے وجود کا خاتمہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ ایک بنیادی دھمکی ہے جو شیعہ معاشرہ کے امن کے لئے خطرہ ہے۔“

لبنان

توفیق الممدینی۔ کتاب: أمل و حزب اللہ ص ۸۱۔

۳۔ ”ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم ایران کا حصہ ہیں بلکہ ہم لبنان کو ایران اور ایران کو لبنان سمجھتے ہیں۔“

ابراہیم الامین (احد قیادی الحزب)۔ جریۃ النهار ۵/۳/۱۹۸۷ء۔

۴۔ ”اور حتیٰ کہ خاتم الانبیاء ﷺ جو کہ اصالح انسانیت اور تہذیبوں میں انصاف قائم کرنے آئے تھے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔“ (نعوذ باللہ)

مصر

الخمینی۔ (مختارات من احادیث و خطابات الامام الاحمینی) ۲/۴۲۔

۵۔ ”حزب اللہ کسی بھی ایسی فوجی کارروائی میں شریک نہیں ہوگی جس کا مقصد قدس شریف کو آزاد کرانا ہو۔“

حسن نصر اللہ۔ جریۃ الانباء، عدد ۸۶۳۰، ۵/۲۷/۲۰۰۰ء۔

۶۔ ”ایران خارجی حکومتوں کیلئے دھمکی کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی صیہونی نظام کے لئے کوئی خطرہ ہے۔“

ریکس ایران: محدود احمدی لحاد۔ جریۃ الشرق الأوسط۔ عدد ۱۰۱۳۶، تاریخ

۲۹/۸/۲۰۰۶ء۔

۷۔ ”کسی روز بھی شیعہ کو اسرائیل کا دشمن نہیں دیکھا گیا۔“

السفاح شارون (رئیس وزراء اسرائیل)۔ مذاکرات شارون ص ۵۸۳

مکتبۃ الامام البخاری
۴۶ شارع الجمهوریۃ الثلاثینی
الاسماعیلیۃ۔ مصر